

ریاست ٹیکساس کا پلان برائے آفت سے بحالی: طوفان ہاروے – راؤنڈ 1



تیار کردہ منجانب
دی ٹیکساس جنرل لینڈ آفس
کمیونٹی ڈویلپمنٹ و تجدیدی پروگرام



فہرست مضامین


4	I. انتظامی خلاصہ.....
10	II. ضروریات کا جائزہ.....
10	A. سابقہ آفات کا مجموعی اثر.....
12	B. طوفان ہاروے کی اثر اندازی.....
16	C. رجوع کے لیے حل اور تخفیف کے لیے ضروریات.....
18	D. ڈیموگرافک پروفائل اور متاثرہ کاؤنٹیز.....
20	E. کم- اور درمیانی آمدن کا تجزیہ.....
20	F. سماجی زدپذیری کا انڈیکس (SoVI).....
22	G. رہائشی اثر.....
22	1- رئیل اسٹیٹ مارکیٹ.....
23	2- بے گھری.....
25	3- سماجی خدمات: 1-1-2 ٹیکساس پروگرام.....
28	4. عارضی رہائشی معاونت.....
29	5- انشورینس.....
33	6- قومی سیلاب کی انشورینس کا پروگرام.....
37	7- ٹیکساس طوفانی ہواؤں سے انشورینس کی ایسوسی ایشن (TWIA).....
39	8- شمال بزنس کی اعانت (SBA) آفت میں گھر کے قرضے.....
40	9. عوامی رہائشی معاونت (PHA) کا ڈیٹا.....
41	10- FEMA انفرادی معاونت FEMA.....
49	H- انفراسٹرکچر پر اثر.....
49	1- ٹیکساس کی تعمیر نو کے لیے گورنر کا کمیشن.....
50	2- ٹیکساس کے ساحلی علاقے کی بحالی کا مطالعہ.....
51	3- FEMA عوامی معاونت.....
54	I- معاشی اثر.....
54	1- روزگار.....
55	2- شمال بزنس ایڈمنسٹریشن (SBA) آفت میں کاروباری قرضے.....
57	3- کمرشل پراپرٹی انشورینس.....
59	4- زراعت پر اثر.....
60	5- سیاحت.....
61	6- ٹیکساس کی معیشت.....
62	III. عمومی تقاضے.....
62	A- عوامی رہائش کی بحالی/تعمیر نو، کم قیمت رہائش اور معاونت کردہ رہائش کے دیگر فارمز.....
62	B- زدپذیر آبادیوں کے لیے رہائش.....

- C- افراد اور/یا اداروں کی نقل مکانی.....63
- D- زیادہ سے زیادہ معاونت.....63
- E- اونچائی کے معیارات.....64
- F- پلاننگ اور کوارٹینیشن.....64
- G- انفراسٹرکچر کی سرگرمیاں.....65
- H- فنڈ کا استعمال.....65
- I- عوام اور املاک کا تحفظ.....66
- 1- معیاری تعمیرات کے معیارات.....66
- 2- ہاؤسنگ کنٹریکٹرز کے معیارات.....66
- J- ایبلز کی کاروائیاں.....66
- K- ڈیم اور دریائی بند کے تقاضے.....67
- L- پروگرام کی آمدن.....67
- M- نگرانی کے معیارات.....67
- N- براڈبینڈ انفراسٹرکچر.....68
- O- آفت سے بحالی اور ریسپانس کا پلان.....68
- IV. ریاست کے زیر انتظام آف سے بحالی کا پروگرام.....69
- A. ایکشن پلان.....69
- C- نامکمل ضروریات سے تعلق.....70
- D- ڈسٹریبیوشن کے لیے علاقائی طریقہ کار.....72
- E- پروگرام کا بجٹ.....74
- F- فنڈز کا استعمال.....75
1. گھریلو مالک کا معاونتی پروگرام.....75
2. مقامی خریداری اور حصول کا پروگرام.....78
3. گھر کے مالک کو رقم لوٹانے کا پروگرام.....80
4. انسداد بے گھری کا پروگرام.....82
5. ارزاں کرائے کا پروگرام.....83
6. حفاظتی پروگرام کیلئے جزوی مرمت اور ناگزیر توانائی.....84
7. مقامی انفراسٹرکچر کا پروگرام.....85
8. معاشی بحالی کا پروگرام.....88
9. مقامی، علاقائی اور ریاستی منصوبہ بندی.....89
10. انتظامی فنڈز.....91
- G. مقام.....91
- H. شدت کم کرنے کے اقدامات.....91
- I. قومی مقاصد.....92

93 شہری شرکت	.V
93 اشاعت	.A
94 عوامی تبصروں پر غور	.B
94 شہریوں کی شکایات	.C
95 اہم ترمیم	.D
95 غیر اہم ترمیم	.E
95 کمیونٹی کی مشاورت	.F
96 عوامی ویب سائٹ	.G
96 معافیاں	.H
97 ZIPs اور سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹیز اور CDBG-DR Eligible	.VI
98 سرٹیفیکیشنز	.VII
101 پروگرام سرانجام دینے کی ٹائم لائنز	.VIII
103 تخمینہ شدہ اخراجات اور نتائج	.IX
108 مشاورتیں	.X
117 علاقائی طریقے	.XI
117 ریاستی ہاؤسنگ پروگرامز کی تفویض کاریاں	.A
123 مقامی انفراسٹرکچر پروگرام کی تفویض	.B

I. انتظامی خلاصہ

2017 کا طوفان کا موسم امریکہ کی تاریخ میں انتہائی مہنگا ثابت ہوا ہے، جو پورٹو ریکو سے فلوریڈا اور ٹیکساس کے ساحلوں پر رہائش پذیر خاندانوں پر اثر انداز ہوا ہے۔ ہاروے طوفان پورٹو ارنساس اور پورٹ او کونر کے درمیان 130 mph سے زائد رفتار ہواؤں کے ساتھ کیٹگری 4 میں 25 اگست 2017 کو ٹکرایا۔ ابتدائی ٹکراؤ کے بعد، ہاروے طوفان کی ہوائیں گھٹنا شروع ہو گئیں، لیکن مغرب اور مشرق میں دو زائد دباؤ کے سسٹمز کی وجہ سے یہ اگلے چار دن کے لیے ٹیکساس کے ساحلوں پر موجود رہا۔ اس مدت کے دوران، متاثرہ جگہوں پر 60 انچ سے زائد بارش ہوئی۔



Weather.gov - ہاروے طوفان کی زمین سے ٹکراؤ کی سیٹلائٹ اور ریڈار تصاویر

جنرل لینڈ آفس (GLO) نے ہاروے طوفان سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ \$120 بلین رہا، جو اسے امریکی تاریخ میں مہنگی ترین آفت بناتا ہے۔ طوفان کی وجہ سے بندرگاہیں، تجارت، سیاحت، ائل اور گیس کی پیداوار، زراعت کی پیداوار، اور ٹیکساس بھر میں عمومی معمولات تقریباً ایک ہفتے، کچھ صورتوں میں واضح طور پر طویل عرصے تک بند رہے۔ اس وقت ان مداخلتوں کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانا مشکل ہے، لیکن اس آفت کے اثرات ملک بھر میں محسوس کیے گئے، جہاں ہاروے طوفان کے بعد کے ہفتوں میں کموڈٹیجز جیسے گیس کی قیمت فی گیلن \$0.33 تک بڑھ گئی۔¹

طوفان ہاروے کل 34 ٹریلین گیلنز پانی کی ریکارڈ بارش

کا باعث بنا۔² اس ریکارڈ بارش اور ہاروے کے دو بار زمین سے ٹکرانے کو باہم ملا کر دیکھنے سے تین واقعتی کہانی سامنے آتی ہے: ارنساس کاؤنٹی میں ابتدائی ٹکراؤ؛ ہوسٹن میٹروپلیکس اور گردونواح کی جگہوں میں غیر معمولی بارش؛ اور ہاروے طوفان کا زمین سے دوسرا ٹکراؤ جنوب مشرقی ٹیکساس میں بڑے پیمانے پر سیلاب کا باعث بنا۔ ان تین واقعات کے بعد، ہزاروں گھر جہاں کبھی سیلاب نہیں آیا وہ بھی ڈوب گئے، اور ٹکراؤ کے بعد والے دنوں میں انخلاء اور بچاؤ کا عمل جاری رہا۔


¹ امریکی انتظامیہ برائے توانائی کی معلومات۔ 2018۔ "پٹرولیم اور دیگر مائع جات۔" ویب پیج پر 8 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔

<https://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel/>

² سان انتونیو ایکسپریس نیوز۔ ستمبر 17، 2017۔ "ہاروے طوفان میں ریکارڈ 34 ٹریلین گیلنز بارش۔" ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔

<http://www.expressnews.com/news/local/article/Harvey-dumped-record-setting-34-trillion-gallons-12204769.php>

GLO کے تخمینے کے مطابق ہاروے طوفان 1 ملین سے زائد گھروں پر اثر انداز ہوا اور ریاست ٹیکساس نے ردعمل اور بحالی کے ضمن میں \$1.1 بلین سے زائد اخراجات کا تخمینہ لگایا ہے۔³ 2 فروری 2018 میں وفاقی مینجمنٹ ایجنسی برائے ہنگامی صورتحال (FEMA) کے پروگرام نے تقریباً \$29.20 بلین کے



ذرائع: www.weather.gov

2017 میں FEMA کے انفرادی اور گھریلو پروگرام میں 896,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، اور \$1.55 بلین سے زائد کی رقم رہائشی معاونت اور دیگر متعلقہ ہنگامی آفت کی معاونت کے ضمن میں ادا کی گئی۔ فروری 2018 میں، FEMA کے سیلاب سے انشورینس کے قومی پروگرام میں 89,000 سے زائد دعویٰ موصول ہوئے اور \$3.4 بلین سے زائد رقم دعویداروں کو ادائیگی کی گئی۔ انتظامیہ برائے چھوٹے کاروبار (SBA) نے گھریلو قرضہ جات کی مد میں \$2.5 بلین سے زائد اور 7 دسمبر 2017 تک کاروباری قرضہ جات کی مد میں \$579 ملین ادا کیے۔

27 دسمبر 2017 کو، HUD نے طوفان ہاروے میں CDBG-DR فنڈز میں ریاست ٹیکساس کو بذریعہ اشاعت فیڈرل رجسٹرار، والیوم 82، نمبر 247 \$57.8 ملین تفویض کیے۔ HUD نے فیڈرل رجسٹر نوٹس میں پیرس کاؤنٹی کو بطور "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقہ شناخت کیا اور تقاضہ کیا ہے کہ تفویض کردہ رقم کا کم از کم 80 فیصد کو کاؤنٹی کے اندر نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنا چاہیے۔ GLO نے ابتدائی فنڈز کا بقیہ حصہ ارنساس، نویسیس اور ریفیوجیو کاؤنٹیز میں ارزاں کرائے کے پروگرام کے لیے تفویض کیا۔ GLO نے \$57.8 ملین کے فنڈز کی تفویض کاری کے لیے ایک ایکشن پلان تشکیل دیا اور 8 مارچ 2018 کو HUD سے ایکشن پلان کی منظوری کے لیے ارسال کیا۔

امریکہ محکمہ برائے رہائشی اور شہری ڈویلپمنٹ (HUD) نے طوفان ہاروے کی حوالے سے کمیونٹی ڈویلپمنٹ بلاک کے \$5.024 بلین آفت بحالی (CDBG-DR) فنڈز ریاست ٹیکساس بذریعہ DR-4332 فیڈرل رجسٹر والیوم 83، نمبر 28 بروز جمعہ 9 فروری 2018 کو جاری کیے۔ یہ تفویض کاری مسلسل تصرفات کے ایکٹ 2018 اور آفت بحالی کے لیے ذیلی تصرفات کے ایکٹ 2017 کے تحت کی گئی جس میں سرکاری طور پر تسلیم کردہ اہم آفات کے ردعمل کے لیے CDBG-DR فنڈز میں \$7.4 بلین تفویض کیے گئے۔ ریاست ٹیکساس کی جانب سے CDBG-DR فنڈز کے انتظام کے لیے گورنر کی جانب سے GLO کو نامزد کیا گیا۔

یہ ایکشن پلان تمام فنڈز کے مجوزہ استعمال کی تفصیلات بشمول اہلیت کے لیے معیار اور ان فنڈز کے انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ جگہوں کی طویل مدتی بحالی اور انفراسٹرکچر، انتہائی متاثرہ اور رہائشی اور معاشی طور پر بحالی کے لیے

³ قانون سازی کا بجٹ بورڈ، 2018۔ "ہاروے طوفان: مالیاتی تجزیے اور ذرائع۔" ویب پیج تک 1 مارچ 2018 تک رسائی کی گئی۔

<https://www.lbb.state.tx.us/Harvey.aspx>


استعمال کے طریقہ کار کی تفصیل دے گا۔ اس کی تفویض کے لیے فنڈز کا استعمال طوفان باروے DR-4332 کے لیے درکار نامکمل بحالی کے لیے محدود ہے۔

HUD میں ارنساس، برازوریا، چیمبرز، فورٹ بینڈ، گالویسٹن، بردین، بیرس، جیفرسن، لیبرٹی، منٹگمری، نیوسیس، اورنج، سان جاکنٹو، سان پیٹریشو، وکٹوریا، وبارٹن کاؤنٹیز؛ 75956, 75979, 77335, 77414, 77423, 77612, 77632, 77979, 78377, 78934 اور 78945 زپ کوڈز کو فیڈرل رجسٹر نوٹس میں بطور "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" جگہوں کے طور پر شناخت کیا گیا ہے اور اس کے لیے تفویض کردہ رقم کا کم از کم 80 فیصد حصہ ان جگہوں کے اندر نامکمل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درکار ہے۔ بقیہ 20 فیصد GLO کی جانب سے تعین کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" جگہوں کے اندر ایکشن پلان کے سیکشن II میں نامکمل ضروریات کے جائزے کے ذریعے بقیہ -33 CDBG-DR اہل کاؤنٹیز کی ضروریات کو پورا کرے گا۔

اس ایکشن پلان کے مقصد کے لیے، چار کاؤنٹیز (بکسار، ڈلاس، ٹارنٹ، اور ٹریوس) جنہیں ہنگامی طور پر تحفظ کے اقدامات، بشمول عوامی اعانت کے پروگرام کے تحت براہ راست وفاقی امداد FEMA کے آفاقی اعلانات موصول ہوئے ہیں، وہ ذیل کے نقشے میں شناخت کردہ DR-CDBG-49 اہل کاؤنٹیز میں شامل نہیں ہیں۔

یہاں ریاست کے اندر موجود 24 علاقائی کونسلز ہیں جو کونسلز آف گورنمنٹس (COGs) کے نام سے معروف ہیں۔ COGs شہر، کاؤنٹی اور خصوصی ڈسٹرکٹ کے ممبرز پر مشتمل ہیں جو کم خرچ، نتائج پر مبنی حکمت عملیاں جو ریاست بھر میں اور مقامی ضروریات کو علاقائی سکیل کے مطابق احاطہ کرتی ہیں۔ 49 CDBG-DR کاؤنٹیز نو COGs کے اندر موجود ہیں: الامو ایریا کونسل آف گورنمنٹس (AACOG)؛ برازوس ویلی کونسل آف گورنمنٹس (BVCOG)؛ کیپیٹل ایریا کونسل آف گورنمنٹس (CAPCOG)؛ خمدار کونسل آف گورنمنٹس (CBCOG)؛ سینٹرل ٹیکساس کونسل آف گورنمنٹس (CTCOG)؛ ڈیپ ایسٹ ٹیکساس کونسل آف گورنمنٹس (DETCOG)؛ گولڈن کریسنٹ علاقائی پلاننگ کمیشن (GCRPC)؛ ہوسٹن گالویسٹن ایریا کونسل (H-GAC)؛ اور ساؤتھ ایسٹ ٹیکساس علاقائی پلاننگ کمیشن (SETRPC)۔ ہر COG اور CDBG-DR اہل کاؤنٹی ذیل کے نقشے میں شناخت کی گئی ہے۔

2005 کے طوفان ریٹا کے بعد سے COGs ریاست کے CDBG-DR پروگرامز کے ساتھ فعال طور پر شراکت دار ہے۔ COGs نے مقامی حکومتوں اور اداروں کو CDBG-DR رہائشی اور انفراسٹرکچر فنڈز کی ڈسٹری بیوشن کے لیے مقامی طریقہ تشکیل دیا ہے، اور کامیابی سے گھریلو مالکان اور کرایہ داری رہائش کی بحالی کے پروگرامز نافذ کیے ہیں۔ ریاست کے CDBG-DR پروگرامز کے ساتھ ان کے کام کے علاوہ، COGs کمیونٹی اور معاشی ڈویلپمنٹ، ہنگامی حالات کی تیاری، ہنگامی مواصلت، اور صحت اور انسانی خدمات سے متعلقہ شعبوں اور پروگرامز میں بھی کام کرتے ہیں۔



تصویر 1: نمونہ HUD-DR-4332 49 CDBG-DR 1 اہل کاؤنٹیز اور HUD کی انتہائی متاثرہ کاؤنٹیز اور زپ کوڈز

ذیل کے جدول میں ریاست ٹیکساس کی نامکمل ضروریات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حسب ضرورت طویل المدتی ضروریات اور ترجیحات برائے CDBG-DR فنڈنگ جو طوفان ہاروے کے نتیجے میں تفویض کی گئی اس کی شناخت کے لیے ضروریات کا جائزہ مکمل کیا گیا۔ یہ جائزہ ڈیٹا کے مجموعی ذرائع کو زیر غور لاتا ہے جو متعدد علاقوں اور سیکنڈری کا احاطہ کرتا ہے۔ ضرورت کا جائزہ اہل اور انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ کمیونٹیز کے اندر نامکمل ضروریات کے متعلق مخصوص تفصیلات کا احاطہ کرتا ہے، اور رہائشی، انفراسٹرکچر، اور معاشی نمو کی تفصیلات کو شامل کرتا ہے۔ ضروریات کے جائزے کی اضافی معلومات اور فنڈز دستیاب ہیں یا اپ ڈیٹ شدہ ہیں کے طور پر ترمیم ہونے کی توقع ہے۔

جدول 1. نامکمل ضرورت کا خلاصہ

کیٹگری	نامکمل ضروریات	نامکمل ضروریات کی %	ریاستی پروگرام کی تفویض کردہ رقم*	ریاستی پروگرام کی تفویض کاری کی %
رہائش	\$24,040,632,591	15%	\$1,823,844,297	77%
انفراسٹرکچر	\$88,242,533,143	62%	\$435,605,083	18%
معاشی نمو	\$24,526,183,916	23%	\$105,363,344	5%
کل	\$136,809,349,650		\$2,364,812,724	

* تفویض کردہ رقم میں پراجیکٹ ڈیلیوری کی لاگت شامل ہیں، ہیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر کے لیے تفویض کردہ رقم شامل نہیں، اور اس میں ایڈمنسٹریشن اور منصوبہ بندی کی لاگت شامل نہیں ہیں۔

ہوسٹن شہر اور ہیرس کاؤنٹی میں سے ہر ایک کو HUD کی ہدایات پر ریاست کے فنڈز تفویض کیے جا چکے ہیں۔ ہوسٹن شہر اور ہیرس کاؤنٹی کو تفویض کردہ رقم HUD کی جانب سے حساب کردہ نامکمل ضروریات کی رقم ہیں۔ \$5.024 کی تفویض کاری ریاست کو کرنے کے لیے HUD کی جانب سے یکساں طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ یہ رقم ہیرس کاؤنٹی کے لیے سابقہ تفویض کاری، معاشی نمو کے پروگرام اور ریاستی ایڈمنسٹریشن کی لاگتوں کا احاطہ کرنے کے لیے مرتب کی گئیں۔

چونکہ ہوسٹن شہر اور ہیرس کاؤنٹی نے ریاست کے معاشی نمو کے پروگرام سے استثنیٰ کے حامل بحالی کے اپنے پروگرامز تشکیل دینے کا انتخاب کیا۔ ہر ایک کو مقامی ایکشن پلان تشکیل دینے کی ضرورت ہو گی۔ مقامی ایکشن پلان HUD کی جانب سے فیڈرل رجسٹر نوٹس میں مذکور کردہ تقاضوں کی مطابقت کے ساتھ تشکیل دینے چاہیے۔ ایکشن پلان میں کم از کم درج ذیل شامل ہونے چاہیے: نامکمل ضروریات کے ساتھ تعلق، مقامی پروگرامز اور تقاضے، مقامی مشاورت، اور اخراجات کی ٹائم لائن۔ یہ مقامی ایکشن پلانز GLO کی جانب سے زیر غور لائے جانے کے بعد مستقبل ک ایکشن پلان کی ترامیم کے ذریعے HUD کو منظوری کے لیے ارسال کیے جائیں گے۔

اس ایکشن پلان کے ذریعے، GLO ریاست کے چلائے گئے متعدد رہائشی پروگرامز کے نفاذ کی تجویز دے رہا ہے۔ ان پروگرامز میں بنیادی رہائش گاہوں کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے گھریلو مالکان کے معاونتی پروگرامز، بنیادی رہائش گاہ کی مرمتی کے لیے گھریلو مالکان کے لیے زر تلافی، متاثرہ گھریلو مالکان اور کرایہ داروں کے لیے بے گھر ہونے سے بچانے کے لیے عارضی معاونت کا پروگرام، اور ملٹی فیملی ڈویلپمنٹس کی بحالی اور تعمیر نو کے پروگرامز شامل ہیں۔

GLO مقامی حکومتوں کو COGs کی تشکیل کردہ MODs کی جانب سے مقامی رہائشی خریداری/حصول اور مقامی انفراسٹرکچر پروگرامز کے لیے فنڈز مختص کرے گا۔

جدول 2۔ کل تفویض کاری کا بجٹ

برنامہ	برنامہ کے حساب سے کل تفویض کاری کا %	کل میزان	LMI قیمت (کل تفویض کاری کا %70)	ریاست کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے (%20)	HUD سب سے زیادہ متاثرہ علاقے (%80)	برنامہ کی تفویض کاری کا ذیلی میزان
براد راست پروگرامز	45.19%	\$ 2,270,506,080	\$ 808,583,475	\$ -	\$ 1,155,119,250	\$ 2,270,506,080
براد راست تفویض کاری کے پروگرامز	22.99%	\$ 1,115,386,830	\$ 780,770,781	\$ -	\$ 1,115,386,830	\$ 1,115,386,830
براد راست تفویض کاری کا ذیلی میزان	22.20%	\$ 1,158,354,256	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,158,354,256
ریاستی پروگرامز						
گھر کے مالک کا معاونتی پروگرام	20.86%	\$ 1,048,011,316	\$ 733,607,921	\$ 209,602,263	\$ 838,409,053	\$ 1,048,011,316
AACOG	0.573%	\$ 6,000,000	\$ 4,200,000	\$ 6,000,000	\$ -	\$ 6,000,000
BVCOG	1.021%	\$ 10,699,908	\$ 7,489,936	\$ 10,699,908	\$ -	\$ 10,699,908
CAPCOG	4.026%	\$ 42,190,373	\$ 29,533,261	\$ 17,012,974	\$ 25,177,399	\$ 42,190,373
CBCOG	11.604%	\$ 121,608,469	\$ 85,125,928	\$ 27,037,385	\$ 94,571,084	\$ 121,608,469
CTCOG	0.191%	\$ 2,000,000	\$ 1,400,000	\$ 2,000,000	\$ -	\$ 2,000,000
DETCOG	12.203%	\$ 127,884,027	\$ 89,518,819	\$ 45,482,652	\$ 82,401,375	\$ 127,884,027
GCRPC	5.335%	\$ 55,938,689	\$ 39,157,082	\$ 23,281,471	\$ 32,657,218	\$ 55,938,689
H-GAC	45.483%	\$ 476,670,600	\$ 333,669,420	\$ 78,087,873	\$ 398,582,727	\$ 476,670,600
SETRPC	19.563%	\$ 205,019,250	\$ 143,513,475	\$ -	\$ 205,019,250	\$ 205,019,250
مقامی خرید / حصول کا پروگرام	5.49%	\$ 275,620,892	\$ 192,934,624	\$ 55,124,178	\$ 220,496,714	\$ 275,620,892
AACOG	1.500%	\$ 4,152,165	\$ 2,906,515	\$ 4,152,165	\$ -	\$ 4,152,165
BVCOG	2.119%	\$ 5,840,778	\$ 4,088,545	\$ 5,840,778	\$ -	\$ 5,840,778
CAPCOG	4.691%	\$ 12,929,474	\$ 9,050,632	\$ 6,581,974	\$ 6,347,500	\$ 12,929,474
CBCOG	12.472%	\$ 34,375,695	\$ 24,062,987	\$ 6,938,635	\$ 27,437,060	\$ 34,375,695
CTCOG	0.502%	\$ 1,384,055	\$ 968,838	\$ 1,384,055	\$ -	\$ 1,384,055
DETCOG	15.013%	\$ 35,867,032	\$ 25,106,922	\$ 10,138,263	\$ 25,728,769	\$ 35,867,032
GCRPC	6.687%	\$ 18,430,647	\$ 12,901,453	\$ 9,824,070	\$ 8,606,577	\$ 18,430,647
H-GAC	40.256%	\$ 110,953,432	\$ 77,667,402	\$ 10,264,238	\$ 100,689,194	\$ 110,953,432
SETRPC	18.753%	\$ 51,687,614	\$ 36,181,330	\$ -	\$ 51,687,614	\$ 51,687,614
گھر کے مالک کو واپس ادائیگی کا پروگرام	1.99%	\$ 100,000,000	\$ -	\$ 20,000,000	\$ 80,000,000	\$ 100,000,000
بے گھری سے بچان کا پروگرام	1.00%	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	\$ 10,000,000	\$ 40,000,000	\$ 50,000,000
مناسب خرائے کا پروگرام	4.98%	\$ 250,000,000	\$ 250,000,000	\$ 50,000,000	\$ 200,000,000	\$ 250,000,000
PREPS پروگرام	1.45%	\$ 72,675,000	\$ -	\$ 14,535,000	\$ 58,140,000	\$ 72,675,000
ریاستی منصوبے کی ڈیلپوری	0.55%	\$ 27,537,089	\$ 19,275,962	\$ 5,507,418	\$ 22,029,671	\$ 27,537,089
مقامی انفراسٹرکچر کا پروگرام	8.23%	\$ 413,431,338	\$ 289,401,937	\$ 82,686,268	\$ 330,745,070	\$ 413,431,338
AACOG	0.370%	\$ 1,530,000	\$ 1,071,000	\$ 1,530,000	\$ -	\$ 1,530,000
BVCOG	0.728%	\$ 3,007,825	\$ 2,105,477	\$ 3,007,825	\$ -	\$ 3,007,825
CAPCOG	1.041%	\$ 4,305,474	\$ 3,013,832	\$ 4,305,474	\$ -	\$ 4,305,474
CBCOG	30.429%	\$ 125,804,238	\$ 88,062,967	\$ 17,809,866	\$ 107,994,372	\$ 125,804,238
CTCOG	0.123%	\$ 510,000	\$ 357,000	\$ 510,000	\$ -	\$ 510,000
DETCOG	1.805%	\$ 7,464,224	\$ 5,224,957	\$ 6,249,445	\$ 1,214,779	\$ 7,464,224
GCRPC	3.718%	\$ 36,044,589	\$ 25,231,212	\$ 17,618,520	\$ 18,426,069	\$ 36,044,589
H-GAC	31.384%	\$ 129,751,767	\$ 90,826,237	\$ 31,655,138	\$ 98,096,629	\$ 129,751,767
SETRPC	25.400%	\$ 105,013,221	\$ 73,509,255	\$ -	\$ 105,013,221	\$ 105,013,221
اقتصادی اصلاحات کا پروگرام	1.99%	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	\$ 20,000,000	\$ 80,000,000	\$ 100,000,000
ریاستی منصوبے کی ڈیلپوری	0.55%	\$ 27,537,089	\$ 19,275,962	\$ 5,507,418	\$ 22,029,671	\$ 27,537,089
ریاستی منصوبہ بندی	2.74%	\$ 137,685,446	N/A	\$ 27,537,089	\$ 110,148,357	\$ 137,685,446
ریاستی انتظامیہ	5.00%	\$ 251,210,750	N/A	\$ 50,242,150	\$ 200,968,600	\$ 251,210,750
تفویض کاری کا ذیلی میزان	100%	\$ 5,024,215,000	\$ 3,243,850,662	\$ 550,741,784	\$ 2,202,967,136	\$ 5,024,215,000
تفویض کاری کا ذیلی میزان	100%	\$ 5,024,215,000	\$ 3,243,850,662	\$ 550,741,784	\$ 2,202,967,136	\$ 5,024,215,000

II. ضروریات کا جائزہ

ریاست ٹیکساس نے طوفان ہاروے کے نتیجے کے طور پر تفویض کردہ CDBG-DR فنڈنگ کے لیے طویل مدتی ضروریات اور ترجیحات کی شناخت کے لیے درج ذیل ضروریات کا جائزہ مکمل کیا ہے۔ یہ جائزہ متعدد علاقوں اور سیکٹرز کا احاطہ کرتے ڈیٹا کے جامع ذرائع کو مدنظر رکھتے ہوئے امریکی محکمہ برائے رہائش و اربن ڈویلپمنٹ (HUD) کے فیڈرل رجسٹر، والیوم 83، نمبر 28 بروز جمعہ 9 فروری 2018 میں مذکور ہدایات کے مطابق مکمل کیا گیا۔ یہ معلومات ریاست بھر اور CDBG-DR 49 اہل کاؤنٹیز میں طوفان کے اثرات پر مرتکز ہیں (ضمیمہ A میں فہرست ملاحظہ کریں)۔ جائزے کے یہ معلومات فیڈرل اور ریاستی ذرائع بشمول FEMA، HUD، TDEM، SBA، صحت و انسانی خدمات کے کمیشن (HHSC)، اور دیگر وفاقی اور ریاستی ایجنسیز کو استعمال کرتے ہوئے اکٹھی کی گئی ہیں۔ طوفان کے اثرات، طوفان کے دوران اور اس کے بعد کیے گئے اقدامات اور نامکمل ضروریات کے حوالے سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے GLO ان ایجنسیز کے ساتھ کام کرنے کے قابل تھا۔

یہ ضروریات کا جائزہ اہل اور انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ کمیونٹیز کی نامکمل ضروریات کے متعلق مخصوص تفصیلات پر مشتمل ہے۔ اس میں رہائش، انفراسٹرکچر اور معاشی احیا نو کے لیے تفصیلات شامل ہیں۔ یہ جائزہ ہاروے طوفان کے نتیجے کے علاوہ آفت سے قبل کی ضروریات کو زیر غور لائے گا۔ یہ اضافی اقسام کی معاونت کو بھی زیر بحث لائے گا جو متاثرہ کمیونٹیز اور افراد کو دستیاب ہو سکتی ہیں، جیسے انشورینس، دیگر وفاقی امداد، یا کوئی دیگر ممکنہ فنڈنگ کے ذرائع۔ درج بالا کو زیر غور رکھتے ہوئے مستقبل کے خطرات کے خلاف تحفظ کے لیے تخفیفی اور بچاؤ کے اقدامات کا بھی معائنہ کیا جائے گا۔

GLO یہ تسلیم کرتا ہے کہ اضافی معلومات اور صراحت وقت کے ساتھ آئیں گی اور یہ توقع کرتا ہے کہ جیسے ہی اضافی فنڈز تفویض کیے گئے تب ان فنڈز کی تقسیم کے لیے مختلف طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی مزید ڈیٹا دستیاب ہوا تو مستقبل کے لیے مختص کردہ فنڈز کی تقسیم کے طریقے کے لیے اس ڈیٹا کو زیر غور لایا جا سکتا ہے جو آج کے ایکشن پلان میں موجود نہیں ہے۔ اس ضروریات کے جائزے میں اضافی معلومات دستیاب یا اپ ڈیٹ ہونے کی صورت میں ترمیم متوقع ہے۔


A. سابقہ آفات کا مجموعی اثر

ریاست ٹیکساس عمومی طور پر سیلاب کا باعث بننے والے متعدد انتہائی شدید موسمی واقعات کی زد میں ہے۔ حالیہ دنوں میں ٹیکساس کو 2010 میں شروع ہونے والی تاریخی خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا۔ دفتر برائے ریاستی ماہر موسمیات کے مطابق، ٹیکساس کے لیے خشک ترین 12 مہینے کی مدت اکتوبر 2010 تا ستمبر 2011 ہے، جب ریاست بھر میں صرف اوسطاً 11.18 انچز کی بارش ہوئی۔ 15 نومبر 2010 سے لے کر 31 اکتوبر 2011 تک باقی رہنے والی تباہ کن آتشزدگی کا باعث بنا۔ کل 3.9 ملین ایکڑ اور اس آتشزدگی کے دوران تقریباً 5،900 عمارات کو نقصان اور/یا تباہ ہوئیں۔ بہت سے عناصر بشمول لائینا موسمی نمونہ جو شدید خشک سالی کی حالت، گرم طوفان لی اور غیر معمولی زیادہ درجہ حرارت اس ریکارڈ توڑ سیزن کا باعث بنے۔ یہ موسمی حالات، 5 سال سے زائد خشک سالی کے نتیجے میں بننے خشک ایندھن کی بڑی مقدار کی دستیابی کے ساتھ باہمی طور پر ان آتشزدگیوں میں شدت کا باعث بنے۔

ٹیکساس میں درپیش طویل خشک سالی نے ریاست کو نہ صرف آتشزدگیوں بلکہ اچانک سیلاب کے خطرے سے بھی دوچار کر دیا۔ خشک سالی کے یہ عناصر مٹی میں بہتے پانی کے موثر انجذاب کی عدم صلاحیت کا باعث بنے۔ 2011 کی آتشزدگیوں کی وجہ سے سبزہ بھی ختم ہو گیا جو عمومی طور پر بارش کے پانی کے سست بہاؤ اور انجذاب کے لیے کام کرتا ہے۔

2015 اور 2016 میں، ریاست میں ریکارڈڈ بارش ہوئی۔ ایک بار نہیں بلکہ متعدد دفعہ۔ یہ ریاست کے 254 میں سے 160 سے زائد کاؤنٹیز میں چھہ وفاقی آفاتی اعلانات پر منتج ہوئی۔ اہم انفراسٹرکچر کی تباہی اور 2015 کے سیلاب کی وجہ سے پہلے سے لبریز شدہ میدان نے کاؤنٹیز کی جانب سے 2016 کے سیلاب کے دوران بربادی کو بڑے پیمانے پر پھیلا دیا۔ یہ متعدد واقعات متعدد انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنے اور ریاست کے تقریباً نصف علاقے، یا 134,000 سکوائر میل کے علاقے کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب تک ریاست ٹیکساس نے اب بھی ان واقعات کے حوالے سے نامکمل ضروریات کے ضمن میں \$2 بلین کا تخمینہ لگایا ہے۔

ذیل کے نقشے میں ان کاؤنٹیز کو نمایاں کیا گیا ہے جو گزشتہ 3 سال کی آفتوں سے متاثر ہوئی ہیں۔ اہلیتی جگہ میں موجود اکثر کاؤنٹیز گزشتہ تین سال کی ہر آفت سے متاثر شدہ ہیں۔ یہ ٹیکساس میں حالیہ آفات کے مجموعی اثرات اور رہائش، انفراسٹرکچر، اور ساحل کے ساتھ موجود مقامی معیشت پر ان آفات کے اثرات کی مزید وضاحت کرتا ہے۔



نمونہ 2: طوفان باروے 2015، 2016 کے سیلاب سے CDBG-DR متاثرہ اہل کاؤنٹیز اور باروے اعلانات

B. طوفان ہاروے کی اثر اندازی


2015 اور 2016 کے سیلاب سے متاثر ہونے والی کمیونٹیز جو اس سے مکمل طور پر سنبھل نہیں سکیں وہ 2017 میں دوبارہ متاثر ہو گئیں۔ گرم ہواؤں سے دوبارہ پیدا ہونے والے دباؤ، طوفان ہاروے کیٹگری 4 کے طوفان کی حیثیت سے 25 اگست 2017 کو زمین سے ٹکرایا، جو اپنے ساتھ شدید ہواؤں کے جھکڑ اور کچھ جگہوں پر 5 دنوں میں 60 انچ کی بارش لایا۔ یہ طوفان ٹیکساس کے ساحل پر موسمی سسٹم کے رک جانے کی وجہ سے 4 شدید سیلاب اور کم از کم 82 انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنا۔ جنوبی ٹیکساس میں ریکارڈ کردہ ہواؤں کی رفتار خاص طور پر ساحل کے قریب اور طوفان ہاروے کی مرکزی دیوار کے قریب اصل سے کم ہو سکتی ہیں، چونکہ بہت سے مشاہداتی سٹیشن طوفان کے ٹکرانے سے قبل غیر فعال تھے؛ تاہم، راک پورٹ کے قریب 150 mph کی انتہائی رفتار کے ہوا کے جھکڑ کی رپورٹ دی گئی۔⁵

قانون ساز بجٹ بورڈ کے مطابق، ریاست ٹیکساس نے مالی سال 2017-2018 کے مالی سال میں طوفان ہاروے سے متعلقہ حقیقی ریاستی اخراجات کے ضمن میں \$421.3 ملین رپورٹ کیے ہیں، اور FY 19 میں اضافی \$747.1 ملین کے ریاستی اخراجات کا تخمینہ لگایا ہے۔ یہ اعداد و شمار مالی سال 2018، 2019، اور 2020 میں پبلک سکول کے ممکنہ مالیاتی اخراجات کا احاطہ نہیں کرتے جس میں بنیادی طور پر سہولت کے نقصان کے اخراجات اور پراپرٹی کی قدر میں کمی کارفرما ہوتی ہے۔ مالی سال 2018 کے اعداد و شمار میں ٹھوس فضلے کی تلفی کی فیسز میں ہنگامی استعمال کے \$90 ملین میں سے \$13 ملین کے اخراجات کوڑے کو ہٹانے کے لیے مقامی حکومتوں کو ادائیگی کے ضمن میں مدد کے لیے شامل ہیں۔ ایجنسیز کو مالی سال کے دوران متحرک رکھنے کے سلسلے میں ان میں سے زیادہ تر اخراجات کے لیے مالی سال 2019 میں ضمنی تصرفات درکار ہوں گے۔ اس دوران اس فنڈنگ کا انتظام ایمرجنسی بجٹ کے طریقہ کار اور متعلقہ استعمال سے فنڈز کی منتقلی اور حتیٰ کہ دیگر ایجنسیز کے ذریعے کیا گیا ہے۔ ان براہ راست اخراجات کے علاوہ، ریاست نے ہاروے طوفان کے بعد حالیہ مالی سال میں ریاست کی پیداوار میں \$3.8 بلین خسارے کا تخمینہ لگایا ہے۔

⁴ دی واشنگٹن پوسٹ۔ "ٹیکساس کے عہدیداران: طوفان ہاروے سے 82 اموات، 'یقیناً بڑی تعداد میں اموات نہیں ہوئیں۔" ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ https://www.washingtonpost.com/national/texas-officials-hurricane-harvey-death-toll-at-82-mass-casualties-have-absolutely-not-happened/2017/09/14/bff3ffea-9975-11e7-87fc-c3f7ee4035c9_story.html?utm_term=.dfe744e2f8

⁵ قومی موسمیاتی سروس۔ "اہم طوفان ہاروے - 25-29 اگست 2017۔" ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey

طوفان ہاروے کی ہوا کے انتہائی 10 میٹر تیز جھکڑ۔ اگست 25-29، 2017



ہوا کے جھکڑ (میل فی گھنٹہ)

- 39-73
- 74-95
- 96-110
- 111-129
- 130-156

طوفان کے تیز جھکڑوں کو نشان زد کیا گیا ہے۔




0 5 10 20 30 40 میل

ماخذ: نیشنل ویڈر پوسٹ ٹرایپل سائیکلون رپورٹس (اس تجزیہ سے نامکمل اور نمائندگی نہ کرنے والے ٹیٹا کو پٹا دیا گیا ہے۔ غیر-10 میٹر ہواؤں کو 10 میٹر کی قدر میں تبدیل کر دیا گیا ہے)

نمونہ 3: طوفان ہاروے کی ہواؤں کے انتہائی تیز جھکڑ

طوفان ہاروے زمین سے دو بار ٹکرایا اور اسے تین علیحدہ واقعات کے طور پر دیکھا گیا: ارنساس کاؤنٹی میں ابتدائی ٹکراؤ؛ ہوسٹن میٹروپلیکس اور گردونواح کی جگہوں میں غیر معمولی بارشیں اور 29 اگست 2017 کو جنوب مشرق ٹیکساس میں اورنج، بیومونٹ اور پورٹ آرٹھر کے شہروں کے قریب دوسری بار ٹکراؤ۔ یہ واقعات نہ صرف ہوا سے ہونے والے نقصان بلکہ وسیع پیمانے پر سیلاب کا باعث بنے۔



نمونہ 4: طوفان ہاروے کا راستہ⁶

طوفان ہاروے سے متاثر ہونے والی CDBG-DR 49 کی اہل کاؤنٹیز ریاست میں 15 فیصد یا 496,39 سکوائر میل کے زمینی رقبے کا احاطہ کرتی ہیں اور ریاست کی تقریباً 32 فیصد آبادی پر مشتمل ہیں۔ متاثرہ زمینی رقبہ تقریباً کینٹکی ریاست کے سائز کے مساوی ہے۔⁷ تقریباً 8.9 ملین ٹیکساس کے رہائشی متاثرہ کاؤنٹیز میں رہائش پذیر ہیں۔


جیسا کہ ذیل کے نقشے میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، ابتدائی ٹکراؤ ہوا سے ہونے والے شدید نقصان (آندھی کی وجہ سے نقصان کے انشورینس دعویٰ سرخ رنگ میں ظاہر کردہ) کا باعث بنا۔ یہ نقشہ ساحل کے شمالی سیکشن میں قومی سیلاب کی انشورینس کے پروگرام (NFIP) کے دعویٰ جات کی حد کو بھی ظاہر کرتا ہے، جہاں طوفانی بارشیں ہوسٹن اور گرد نواح کے علاقوں میں شدید سیلاب کا باعث بنیں۔ یہ تصویر ہاروے طوفان کی دو تباہ کن خصوصیات کو مزید ظاہر کرتی ہے: (1) طوفانی طاقت کی حامل ہوائیں اور (2) تاریخی بارشیں اور سیلاب کا حامل آہستگی سے حرکت کرتا طوفان۔

⁶ قومی موسمیاتی سروس۔ "اہم طوفان ہاروے - 25-29 اگست 2017"۔ ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔

http://www.weather.gov/crp/hurricane_harvey


⁷ امریکی محکمہ مردم شماری۔ "فوری حقائق کینٹکی، امریکہ"۔ ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔

<https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/KY,US/LND110210>



نمونہ 5: طوفانی ہواؤں اور سیلاب سے ہونے والے رہائشی اور کاروباری نقصان کی مد میں انشورینس کے دعوی جات

جب بارش تھم گئی، تب تک طوفان ہاروے محض چند دنوں میں بارش کی تقریباً سال بھر کی مقدار برسا چکا تھا۔ طوفان کے دوران اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ قومی موسمیاتی سروس کو اپنی تصاویر میں موثر طریقے سے خاکہ بنانے کے لیے رنگین چارٹس اپ ڈیٹ کرنے پڑے۔ 20-30 انچز اور 40 انچز سے زائد کی رینجز میں ہونے والی بارش کے لیے دو اضافی جامنی شیڈز شامل کیے گئے تھے۔



5 دن کے بارش کی پوائنٹ مقدار انچ میں

- ہاروے نے کل مجموعی 45 انچ تا 50 انچ سے زائد ریکارڈوں کو توڑنے والی بارشوں کا ریکارڈ جاری رکھا مسلسل بارش
- **سیڈار بیو - 51.88**
- **بریری بیو - 44.88**
- **لیگ سیٹی - 49.84**
- **میری کریک - 49.80**
- **گوس گریک - 44.08**
- **گرین بیو - 41.36**
- **بوفالو بیو - 35.60**
- **اڈیکس ڈیم - 33.44**

نمونہ 6: قومی موسمیاتی سروس کی انچز میں 5 روزہ بارش کی نشاندہی

C. رجوع کے لیے حل اور تخفیف کے لیے ضروریات

ریاست میں سیلاب، طوفان، آتشزدگیاں اور خشک سالی، نیز اس کے انتہائی پرخطر علاقوں میں مستقبل کی آفت میں تخفیف کی جاری کوششوں کی طویل اور واضح دستاویز شدہ تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے، GLO فوری بحالی کو ترجیح

دیتے ہوئے تعمیر نو کے لیے اپنی وابستگی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ نامکمل ضروریات کے جائزے میں رہائشی اور کمیونٹی کے انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کو مستقبل کی آفات سے بچاؤ کے اضافی اخراجات کو مدنظر رکھنا اہم ہے۔ اس طرح ریاست ٹیکساس نہ صرف پراجیکٹس کا جائزہ اور برباد شدہ پراپرٹی کی تبدیلی یا مرمتی کے ریاستی پروگرامز کو زیر غور لائے گی بلکہ متنوع نوعیت کے مستقبل کی آفات سے ہونے والے نقصان میں تخفیف کے ضمن میں وسائل کی سرمایہ کاری کی کوششوں کی طلب گار ہو گی۔ اگرچہ اس سے ابتداء میں اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، تخفیفی کوششیں 6:1 کے تناسب سے مستقبل میں ہونے والے نقصانات کی لاگت کو واضح طور پر گھٹا سکتی ہیں۔ اس طویل المدتی بحالی کے عمل کی کامیابی طوفان ہاروے کے دوران براہ راست ملاحظہ کی گئی۔ سابقہ CDBG-DR کی فوری بحالی کے بہتر شدہ پراجیکٹس کی کوششوں کو ہاروے طوفان سے کم نقصان کا سامنا کرنا پڑا: مستقبل کے سیلاب سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے تعمیری منصوبے، مزید نقصان میں کمی، اور انخلاء کے وقت کو گھٹاتے ہیں۔

ایک فیملی کے گھر کی فوری بحالی کے حل سے فی گھر کل لاگت میں تقریباً 10 تا 15 فیصد اضافہ متوقع ہے؛ ملٹی فیملی فوری بحالی کے حل سے فی پراجیکٹ کل لاگت میں 15 تا 20 فیصد اضافہ متوقع ہے؛ اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کے حل سے فی پراجیکٹ کل لاگت میں 15 تا 20 فیصد اضافہ متوقع ہے۔ فوری بحالی کے حل متنوع اور متعلقہ جگہ میں خطرے اور اس کی شناخت کاری اور خطرے کے جائزے (THIRA) پر منحصر ہیں۔

سنگل فیملی کے گھر کی بحالی کے حل میں رہنے کے قابل جگہ کے پہلے فلور کو بلندی پر اٹھانا؛ گراؤنڈ فلور کی علیحدہ دیواریں؛ مضبوط چھتیں؛ طوفانی شٹر بند؛ ENERGY STAR آلات اور لوازمات؛ اور مولڈ اور پھپھوندی سے مدافعت کی حامل مصنوعات کے استعمال پر مشتمل ہو سکتی ہیں۔ ملٹی فیملی فوری بحالی کے حل میں اونچائی؛ برقرار رکھنے کے بیسنز؛ آگ سے محفوظ ارضی بناوٹ؛ فائر والز؛ اور ارضی طور پر سیلابی پانی کو روکنے کی دیواریں شامل ہیں۔

خریداری کے پروگرامز خطرے میں تخفیف، سیلابی جگہ کی مینجمنٹ کے مقاصد، اور گھروں کے مالکان کی سیلابی میدان سے ہٹاتے ہوئے فوری بحالی، اس طرح مستقبل کی سیلابی صورتحال کے لیے زدپذیری سے بچاؤ کی معاونت کرتے ہیں۔ گھر خریدنے کے بعد، ڈھانچے عمارت ڈھا دی جاتی ہے یا منتقل کر دی جاتی ہیں۔ زمین قدرتی سیلابی میدان میں بدل جاتی ہے، سیلابی پانی کو قابو میں رکھنے کی جگہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا اسے بطور تفریحی مقاصد کے لیے سرسبز جگہ کے طور پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ خریداری کا انتخاب متعدد مقاصد کی تعمیل کرتا ہے اور سیلابی میدان کے اندر تعمیر نو کے برخلاف فوری بحالی کا انتخاب فراہم کرتا ہے۔ خریداریاں مسلسل نقصان اور انسانی صحت اور تحفظ کو درپیش انتہائی خطرے سے بچاؤ میں مدد کرتی ہے۔ دیر سے انجام دی گئی خریداریوں کی نسبت فوری انجام دی گئی خریداریاں گھروں کی مالکان کو درستگیاں کرنے اور پراپرٹیز میں فنڈز کی سرمایہ کاری کرنے سے بچاتی ہیں جسے وہ بعد میں فروخت کرنے کے قابل نہ ہو سکیں۔

انفراسٹرکچر فوری بحالی کے حل کی صورت میں، بہتریوں میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں:

- اہم سسٹمز، سہولیات اور سڑکوں کی سیلاب کی بنیادی اونچائی سے بلندی پر تعمیر؛
- اہم سسٹمز (پانی، نکاسی وغیرہ) کے لیے بیک اپ پاور جنریٹرز انسٹال کرنا؛
- پراجیکٹس کو اپنے اصلی مقام پر رکھتے ہوئے اور مزید سرایت کے قابل وسعت کو ممکن بنانے کے لیے تعمیراتی طریقہ کار کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ناقابل سرایت ڈھال میں اضافے سے گریز؛
- قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے صرف مقامی نباتات کی کاشت؛
- طوفانی پانی کی مینجمنٹ بشمول بیسنز میں پانی قابو کرنا، بڑی زمین دوز نالیاں اور کچرے کے گارڈز، کٹاؤ کو قابو کرنے کے حل؛
- بیک اپ کمیونیکیشن سسٹمز؛ اور
- بہتر تعمیراتی کوڈز اور ضوابط کے لیے مقامی کمیونٹی کی کوششوں کی معاونت۔

نامکمل ضروریات کا حساب کرنے کے لیے رہائشی اور انفراسٹرکچر دونوں سرگرمیوں کے لیے فوری بحالی کا ضارب معیاری طور پر 15 فیصد ہو گا، جیسے سابقہ طور پر ریاست ٹیکساس کے دیگر CDBG-DR پروگرامز میں اطلاق کیا گیا۔

D. ڈیموگرافک پروفائل اور متاثرہ کاؤنٹیز

یہ ڈیموگرافک پروفائل ڈیٹا امریکی محکمہ مردم شماری کی جانب سے متنوع نوعیت کے ڈیٹا سیٹس کو استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے تاوقتیکہ اسے دوسری صورت میں بیان کیا گیا ہو۔ طوفان ہاروے سے متاثرہ 49 CDBG-DR اہل کاؤنٹیز ریاست ٹیکساس کا 15 فیصد علاقے یا 496,39 سکوائر میل کے رقبے کا احاطہ کرتی ہیں، اور ریاست کی آبادی کا تقریباً 32 فیصد پر مشتمل ہیں۔ یہ ٹیکساس میں رہائش پذیر تقریباً 8.9 ملین رہائشیوں کے مساوی ہے۔ ان کاؤنٹیز میں 2010 سے 2016 تک تقریباً 1 ملین افراد، یا 12 فیصد اضافے کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔

اہل کاؤنٹیز میں موجود 3.4 ملین رہائشی یونٹس میں سے، 62.5 فیصد مالکانہ حقوق کے حامل یونٹس ہیں۔ چند رہائشی اور آمدن کے ڈیموگرافکس ریاست بھر کی اوسط کے برخلاف اہل کاؤنٹیز میں معمولی طور پر مختلف ہیں۔ 49 اہل کاؤنٹیز میں مالکانہ حقوق کے حامل رہائشی یونٹ کی اوسط قدر اور گھریلو اوسط آمدن ریاست کے مقابلے میں کم ہے۔ مالکانہ حقوق کے حامل رہائشی یونٹس کی اوسط قدر \$105,800 ہے جو ریاست بھر میں \$142,700 کی اوسط قدر سے تقریباً \$37,000 کم ہے۔ 49 اہل کاؤنٹیز میں گھریلو اوسط آمدن \$50,145 ہے - جو ریاست بھر میں \$54,727 کی اوسط سے \$4,582 کم ہے۔ کم تر اوسط گھریلو آمدن کے علاوہ، فی کس آمدن بھی ریاست کے مقابلے میں کم ہے۔ 49 اہل کاؤنٹیز میں رہائش پذیر آبادی کا تقریباً 14.9 فیصد غربت کا شکار ہے۔ یہ ریاست کی اوسط 15.6 فیصد سے معمولی کم ہے۔

شرح فیصد کی رو سے 49 اہل کاؤنٹیز میں ریاست کے ساتھ موازنہ کرنے کے دوران افریقن-امریکن آبادی کا تناسب زیادہ ہے۔ 49 اہل کاؤنٹیز میں 16.27 فیصد افریقن-امریکن آبادی ہے جو ریاست بھر کی کل آبادی کی نسبت 3.67 فیصد زیادہ ہے۔ 49 اہل کاؤنٹیز میں کلی طور پر اقلیتی آبادی تقریباً 62.21 فیصد ہے جو ریاست بھر کی کلی شرح سے 2.7 زیادہ ہے۔

49 اہل کاؤنٹیز میں تجربہ کار اشخاص آبادی کا 4.9 فیصد پر مشتمل ہیں؛ عمر رسیدہ تقریباً 11.73 فیصد ہیں؛ اور 65 سال کی عمر سے کم معذور افراد آبادی کا 7.65 فیصد ہیں۔ یہ اعداد و شمار ریاست کی اوسط کے مطابق ہیں۔


جدول 3: امریکہ محکمہ مردم شماری کی جانب سے ٹیکساس اور 49 CDBG-DR اہل کاؤنٹیز کے لیے 2016 کی ڈیموگرافک شماریات

49 CDBG-DR اہل کاؤنٹیز		ٹیکساس	
فیصد علاقہ	تخمینے	تخمینے	حقائق
ٹیکساس کی آبادی کا 32%	8,861,831	27,862,596	آبادی کا تخمینہ، 2016
	12%	10.80%	آبادی، فیصد تبدیلی - 1 اپریل 2010، (تخمینے کی بنیاد) تا 1 جولائی 2016
اہل آبادی کا 7.28%	645,145	7.20%	5 سال سے کم عمر افراد، فیصد، 2016

ٹیگس اس 49 CDBG-DR اہل کاؤنٹیز		ٹیگس اس	
فیصد علاقہ	تخمینے	تخمینے	حقائق
اہل آبادی کا 26.17%	2,319,282	26.20%	18 سال سے کم عمر افراد، فیصد، 2016
اہل آبادی کا 11.73%	1,039,153	12.00%	65 سال اور زائد عمر افراد، فیصد، 2016
74.40%	6,593,176	79.40%	صرف سفید فام، فیصد، 2016
16.27%	1,441,957	12.60%	صرف سیاہ فام یا افریقن امریکن، فیصد، 2016
1.00%	88,954	1.00%	صرف امریکن انڈین اور الاسکا کے مقامی باشندے، فیصد، 2016
6.38%	565,728	4.80%	صرف ایشیائی، فیصد، 2016
0.10%	8,875	0.10%	صرف ہوائی اور دیگر پیسیفک جزائر کے مقامی باشندے، فیصد، 2016
1.85%	163,599	1.90%	دو یا زائد نسلیں، فیصد، 2016
36.61%	3,244,050	39.10%	ہسپانوی یا لاطینی، فیصد، 2016
40.15%	3,558,315	42.60%	صرف سفید فام، ہسپانوی یا لاطینی نہیں، فیصد، 2016
	3,444,036	10,753,629	رہائشی یونٹس، 2016
62.5% رہائشی یونٹس	2,152,669	61.90%	مالکانہ حقوق کے حامل رہائشی یونٹ کی شرح، -2012 2016
	\$ 105,800	\$142,700	مالکانہ حقوق کے حامل رہائشی یونٹس کی اوسط قدر، 2012-2016
	\$ 777	\$ 911	اوسط کل کرایہ، 2012-2016
اہل آبادی کا 7.65%	678,268	8.10%	معذوری کا شکار، 65 سال سے کم عمر، فیصد، -2012 2016
	\$ 50,145	\$ 54,727	اوسط گھریلو آمدن (2016 میں ڈالرز)، 2012-2016
	اہل آبادی کا 14.9%	15.60%	غربت کا شکار افراد، فیصد
ٹیگس اس کا 15%	39,496	261,231.71	سکوائر میل میں زمینی رقبہ، 2010

E- کم- اور درمیانی آمدن کا تجزیہ

ذیل کا نقشہ ریاست ٹیکساس کے لیے HUD کے 2017 کم- اور درمیانی آمدن کا مختصر ڈیٹا (LMISD) کو استعمال کرتے ہوئے 49 اہل کاؤنٹیز میں کم- اور درمیانی-آمدن کی حامل 51 فیصد یا زائد آبادی کی مردم شماری کے بلاک گروپس کی شناخت کرتا ہے۔⁸



نمونہ 7: بلاک گروپ کے مطابق LMI آبادی کی شرح فیصد

F- سماجی زد پذیری کا انڈیکس (SoVI)

جب ٹیکساس میں متاثرہ کاؤنٹیز کے لیے نامکمل ضروریات کا جائزہ لیتے وقت ایک اضافی عنصر زیر غور لانا چاہیے کہ انہیں قدرتی خطرات کے لیے کس سطح کی سماجی زد پذیری کا سامنا ہے۔ سماجی زد پذیری کا انڈیکس (SoVI) امریکہ بھر میں سماجی زد پذیری- خاص طور پر ماحولیاتی خطرات کے لیے ان کی زد پذیری کی پیمائش کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ کارولینا کے تحقیقی ادارہ برائے خطرات و زد پذیری کا بنایا گیا یہ انڈیکس، 29 سماجی معاشی تغیرات کو یکجا

⁸ HUD ایکسچینج- "ریاست کی جانب سے 2006-2010 LMISD - FY2017 امریکن کمیونٹی کے سروے پر مبنی، تمام بلاک گروپس۔"


ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ <https://www.hudexchange.info/programs/acs-low-mod-summary-data/acs-low-mod-summary-data-block-groups-places/>

کرتا ہے جو خطرات کے لیے تیاری، رد عمل دینے اور خطرات سے سنبھالنے کے لیے کمیونٹی کی صلاحیت میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ SoVI ایک تقابلی پیمائشی طریقہ ہے جو کاؤنٹیز کی زدپذیری میں فرق کا معائنہ کرتا ہے۔ یہ قیمتی ٹول ہے کیونکہ یہ سماجی زدپذیری میں جیوگرافک تغیرات کو تصویری شکل میں ظاہر کرتا ہے، جو بدلے میں ردعمل اور بحالی میں بہتری کا باعث بنتے ہیں SoVI آفت نمٹنے کی تیاری اور ردعمل کے لیے غیر متوازی صلاحیت، اور جہاں وسائل کو پیشگی موجود زدپذیری کو گھٹانے کے لیے موثر طور پر استعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ SoVI کی ڈویلپمنٹ کے لیے ڈیٹا کے ذرائع بنیادی طور پر امریکی محکمہ مردم شماری کی جانب سے آتے ہیں۔ SoVI کا ڈیٹا 2010 کی امریکی دس سال مردم شماری اور امریکن کمیونٹی سروے (ACS) کی جانب سے پانچ سالہ تخمینوں میں دستیاب بہترین ڈیٹا کو یکجا کرتا ہے۔ ذیل میں دیا گیا نقشہ ٹیکساس میں CGBG-DR کے لیے اہل کاؤنٹیز کے لیے SoVI کو نمایاں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، قطعاتی مردم شماری کی سطح میں SoVI کا سکور ہر کاؤنٹی کے اندر زدپذیری کا مزید باریک سروے فراہم کرتا ہے۔

SoVI کی تفصیلات آگے انفرادی طور پر اسکی کسی خصوصیت کی مدد سے واضح کر دی گئی ہیں جس سے اسکی حساسیت اثر انداز ہوتی ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت معاشی و معاشرتی رتبہ ہے جو کسی کمیونٹی کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ نقصان برداشت کر سکے اور اسکے بعد کے اثرات سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ اسکی سوچ کی وجہ سے ہے کہ مال و دولت کمیونٹی کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ بیمہ پالیسی معاشرتی حفاظتی نیٹ اور انٹائنٹمنٹ پروگرام کے ذریعے نقصانات کو برداشت کر سکیں۔ SoVI میں استعمال ہونے والے دیگر عناصر میں جنس، نسل اور عقائد ہیں جو کہ یہ عناصر زبان اور ثقافت کی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں لہذا تباہی کے بعد کی امداد تک رسائی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ SoVI میں مستعمل دیگر عناصر میں خصوصی ضروریات کی حامل آبادیاں، معاشرتی انحصار (مثلاً وہ لوگ جو مکمل طور پر معاشرتی سروسز پر منحصر ہوتے ہیں) تعلیم، خاندانی ڈھانچے، پیشے اور دیگر ڈیموگرافک خصوصیات انفرادی اور کمیونٹی کی زدپذیری کی وضاحت کرتے ہیں۔

تباہی کے بعد امدادی کاموں اور سوشل سروسز کی فراہمی کے دوران انسانی تکالیف اور معاشی نقصان دونوں کو کم کیا جاسکتا ہے اگر معاشرتی حساسیت سے موثر انداز میں نمٹ لیا جائے۔ ایک تباہی کا کل نامکمل ضروریات اور فی کس نا مکمل ضروریات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے SoVI تباہی کے بعد بحالی کے لیے فیصلہ سازی کے عمل میں ایک تہہ کا اضافہ کرتے ہوئے حتمی امداد کے طریقے کا فیصلہ انفرادی یا کمیونٹی کی کوشش کی مدد سے کیے گئے فیصلے کے مطابق لیتی ہے۔ SoVI پھر فنڈز کی تقسیم کے لیے کل نا مکمل ضروریات اور فی کس نا مکمل ضروریات کے ساتھ مربوط ہوتی ہے۔

جب نسبتاً موازنہ کیا جائے تو سب سے زیادہ زدپذیر کاؤنٹی بی، کارنس، میڈیسن، اور جم ویلز ہیں۔ سب سے کم ترین زدپذیری کی حامل چند کاؤنٹیز میں فورٹ بینڈ، برازوریا، اور چیمبرز شامل ہیں۔



نمونہ 8: کاؤنٹی سماجی زہدپیری انڈیکس کی کیٹگری

G. رہائشی اثر

1. ریل اسٹیٹ مارکیٹ

ٹیکساس میں رہائشی ریل اسٹیٹ مارکیٹ گھروں کی زیادہ طلب اور محدود سپلائی کے ساتھ مضبوط ہے۔ جیسا کہ طوفان ہاروے سے قبل ٹیکساس A&M کے ریل اسٹیٹ سینٹر کی اگست 2017 کی رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے، کہ ٹیکساس کے گھروں کی انویٹری کے مہینوں میں 2014 کے بعد سے پہلی بار 3.9 مہینوں کا اضافہ ہوا ہے؛ یہ گھروں کی زیادہ طلب اور محدود سپلائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تقریباً 6 مہینے کی انویٹری کو متوازن رہائشی مارکیٹ سمجھا جاتا ہے۔ ٹیکساس میں \$300,000 کے حد میں گھروں کے لیے محدود سپلائی نیز بڑھتے تعمیراتی اخراجات

کی وجہ سے رہنشی استطاعت مسلسل بدتر ہو گئی ہے۔⁹ پہلے سے محدود مارکیٹ میں، طوفان ہاروے سے ہونے والے نقصان سے ریاست میں استطاعتی مسائل میں صرف اضافہ ہوا ہے۔

طوفان ہاروے کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں موجود رہائشی مارکیٹس کافی حد تک ڈوب گئی ہیں؛ تاہم ستمبر میں مارکیٹ میں چڑھاؤ دیکھا گیا۔ طوفان ہاروے کی وجہ سے اگست میں رہائشی گھروں کی فروخت میں تاخیر ستمبر میں 2.6 اضافے کا باعث بنی، چونکہ یہ فروخت طوفان کے بعد سر انجام دی گئیں۔ تیسری سہ ماہی میں خالی، تیار شدہ لائٹس میں بھی سنگل فیملی رہائشی تعمیراتی پرمٹس میں 5.4 فیصد ماہانہ اضافہ دیکھا گیا۔ یہ اضافہ براہ راست ہوسٹن جیسی جگہوں میں بحالی کی کوششوں سے متعلق ہے۔¹⁰

2- بے گھری

آفت سے قبل بے گھر افراد سے متعلقہ جائزے اور GLO کے دیگر ریاستی ایجنسیز اور تنظیموں کے ساتھ کام کی بنیاد پر، آفت سے قبل بے گھر افراد کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے ریاست کام کر رہی ہے۔

جنوری 2017 میں، ملک میں بے گھر افراد کی کل آبادی کا 4.25 فیصد ٹیکساس میں موجود ہے۔ تاہم، ریاست کی آبادی اور سائز کی بنیاد پر، 2012 تا 2017 میں بے گھروں کی تعداد میں سب سے زیادہ کمی (30.8 فیصد کمی) دیکھی گئی۔ پوائنٹ ان ٹائم کے شمار میں یہ ظاہر ہوا کہ ریاست کے 23,548 افراد کو ظاہری طور پر 2017 میں بطور بے گھر شمار کیا گیا۔¹¹ جنوری 2016 تا جنوری 2017 تک، ٹیکساس کی کل بے گھر آبادی میں 1.8 فیصد کا معمولی اضافہ دیکھا گیا۔

HUD 2017 نگہداشتی ڈیٹا کی رپورٹس کے مطابق ریاست میں کل بے گھر آبادی کے 29.05 فیصد گھرانے ایک بالغ اور کم از کم 18 سال سے کم عمر ایک بچے پر مشتمل ہیں۔¹²

اس ایکشن پلان کی ڈرافٹنگ کے موقع پر آفت کے بعد بے گھر افراد کی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ 2018 کا وقتی نقطے پر شمار جنوری میں کیا گیا تھا۔ اس گنتی کے نتائج دستیاب نہیں ہیں۔

نگہداشت کا تسلسل (CoC) ایسے نمائندگان کا گروپ ہے جو مخصوص علاقائی جگہ پر بے گھروں کی سروسز کے باہمی تعاون اور بے گھر ہونے سے بچاؤ کی سرگرمیوں سر انجام دیتا ہے اور جو کمیونٹی بھر میں بے گھر یا بے گھری کے خطرے کا شکار افراد اور خاندانوں کی رہائشی اور خدمت کی ضروریات سے نمٹنے اور جائزہ لینے کے لیے مربوط کوششوں کا اطلاق کرتا ہے۔

(a) ریاستی بے گھر افراد کی معاونتی خدمات

⁹ ٹیکساس A&M ریئل اسٹیٹ سینٹر۔ "ٹیکساس کی معیشت کا منظرنامہ۔" ویب پیج تک 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔

<https://www.recenter.tamu.edu/articles/technical-report/outlook-for-the-texas-economy>

¹⁰ ٹیکساس A&M ریئل اسٹیٹ سینٹر۔ "MSAs کی جانب سے نومبر 2017 کی ہاؤسنگ رپورٹس۔" (31 اکتوبر 2017 کا ڈیٹا)

¹¹ HUD ایکسچینج۔ "2007 - 2017 پوائنٹ - CoC کی جانب سے وقت کی گنتی۔" ویب پیج/Excel دستاویز تک 10 جنوری 2018 کو

رسائی کی گئی۔ <https://www.hudexchange.info/resources/documents/2007-2017-PIT-Counts-by-CoC.xlsx>

¹² HUD ایکسچینج۔ "2017 کی بے گھر افراد کی نگہداشتی معاونت کے پروگرامز بے گھر آبادیاں اور ذیلی آبادیاں۔" ویب پیج پر 10

جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ https://www.hudexchange.info/resource/reportmanagement/published/CoC_PopSub_State_TX_2017.pdf

ٹیکساس دوس اور فعال بے گھر افراد کی معاونتی خدمات کے پروگرام کا حامل ہے۔ ٹیکساس بے گھر افراد کا نیٹ ورک ریاست بھر میں مصروف عمل غیر منافع تنظیم ہے جس کے لیے جزوی طور پر ٹیکساس محکمہ برائے رہائش و کمیونٹی ایفیرز (TDHCA) اور ٹیکساس ڈیپارٹمنٹ برائے ریاستی صحت کی سروس (DSHS) کی جانب سے سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے۔ ٹیکساس بے گھر افراد کا نیٹ ورک سروس فراہم کنندگان اور کمیونٹیز کو بے گھری ختم کرنے کے حتمی مقصد کے ساتھ بے گھر آبادی کی کمیونٹیز کے لیے بہتر خدمت میں مدد کے لیے ریاست بھر میں تربیت اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔¹³

TDHCA کا بے گھر افراد کی رہائش اور خدمات کا پروگرام (HHSP) بے گھر افراد اور خاندانوں کے لیے آٹھ بڑے شہروں میں خدمات کی معاونت کے سلسلے میں سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ HHSP کے زیر اہتمام حالیہ طور پر آرلنگٹن، آسٹن، کورپس کرسٹی، ڈلاس، ایل پاسو، فورٹ روتھ، ہوسٹن، اور سان انتونیو شامل ہیں۔ 2015، 2016 اور 2017 کے مالی سال کے لیے HHSP کے لیے \$15 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ مجاز سرگرمیوں میں تعمیرات، ڈویلپمنٹ، یا بے گھر افراد کے لیے رہائش کی خریداری؛ بے گھر یا بے گھری کے خطرے کا شکار افراد کی خدمت کے لیے ہدف شدہ عمارات کی بحالی؛ بے گھر یا بے گھری کے خطرے کا شکار افراد کے لیے براہ راست خدمات اور کیس مینیجمنٹ کی فراہمی؛ یا دیگر بے گھر ہونے سے متعلقہ سرگرمیاں شامل ہیں۔

ہنگامی سلوشنز گرانٹس (ESG) پروگرام سابقہ ایمرجنسی شیلٹر گرانٹس پروگرام ایک مسابقتی گرانٹ ہے جو ریاست ٹیکساس میں نجی غیر منفعتی تنظیموں، شہروں اور کاؤنٹیز میں بے گھر یا بے گھری کے خطرے کا شکار افراد کی مستقل رہائش کی صورت میں فوری استحکام میں مدد دینے کے ضمن میں ضروری خدمات کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ ESG پروگرام HUD کی جانب سے فنڈ اور TDHCA کے زیر اہتمام چلایا جاتا ہے۔ 2016 اور 2017 میں، TDHCA نے ریاست بھر میں بے گھری سے نبرداز ماہل وصول کنندگان کے لیے \$17 ملین سے زائد فراہم کیے۔

ٹیکساس کا HOME آفات میں سہارے کا پروگرام TDHCA کے زیر اہتمام چلایا جاتا ہے۔ یہ پروگرام مقامی حکومتوں، غیر منفعتی تنظیموں اور وفاقی یا ریاست کی اعلان کردہ کاؤنٹی میں علاقے کی اوسط خاندانی آمدن (AMFI) میں 80 فیصد یا کم گھریلو آمدن کے حاملین کی خدمت کے لیے دستیاب ہے۔ اہل سرگرمیوں میں HOMEowner بحالی معاونت پروگرام، کرایہ دار پر مبنی رینٹل معاونت پروگرام، اور HOMEbuyer معاونتی پروگرام۔ دسمبر 2017 تک، \$10 ملین سے زائد کی رقم ٹیکساس میں HOME آفت میں سہارے کے پروگرام کے لیے دستیاب کی گئی۔¹⁴

اضافی طور پر ٹیکساس انٹر ایجنسی کونسل برائے بے گھر افراد (TICH) کا قیام 1995 میں عمل میں آیا اور یہ بے گھری سے نمٹنے کے لیے ریاست کے وسائل اور خدمات کو مربوط کرتی ہے۔ TICH TDHCA کے لیے بطور مشاورتی کمیٹی مصروف عمل ہے۔ 11 ریاستی ایجنسیز نیز گورنر، نائب گورنر، اور ایوان نمائندگان کے سپیکر کی جانب سے مقرر کردہ ممبرز کونسل میں بیٹھتے ہیں۔¹⁵ کونسل کی ذمہ داریوں میں درج ذیل شامل ہے:

¹³ ٹیکساس بے گھر افراد کا نیٹ ورک۔ ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ <http://www.thn.org/>

¹⁴ TDHCA۔ "HOME آفت میں سہارے کا پروگرام"۔ ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔

<http://www.tdhca.state.tx.us/home-division/disaster-relief.htm>

¹⁵ TDHCA۔ ٹیکساس انٹر ایجنسی کونسل برائے بے گھر افراد (TICH)۔ "ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔

<http://www.tdhca.state.tx.us/tich/>

- ریاست میں بے گھر افراد کی خدمات کے لیے حالیہ وسائل کا سروے کرنا؛
- تمام بے گھر افراد کے لیے ریاست بھر میں خدمات کی فراہمی اور ربط کاری میں معاونت؛
- مختلف فراہم کنندگان اور مناسب حکام کے مابین معلومات کی ترسیل میں اضافہ کرنا؛
- مختلف علاقوں میں خصوصی ضروریات کے حامل افراد کی رہائش کے لیے ضرورت کے جائزے میں TDHCA کو تکنیکی معاونت کی فراہمی؛ اور
- بے گھر افراد کی خدمات کے لیے معلوماتی سینٹر اور مرکزی ذرائع کا اہتمام۔

ریاست کا محکمہ برائے صحت کی خدمات (DSHS) بے گھری سے منتقلی میں معاونت کے لیے پروجیکٹس (PATH) پروگرام (1) سکریننگ، تشخیصی جائزہ، اور علاج؛ (2) آباد کاری اور بحالی؛ (3) کمیونٹی ذہنی صحت کی خدمات؛ (4) بیرونی مریضان الکحل یا منشیات کا علاج؛ (5) عملے کی تربیت اور کیس مینیجمنٹ؛ (6) بنیادی صحت کی خدمات، روزگار کی تربیت، تعلیمی خدمات (بشمول HIV سے بچاؤ کی سرگرمیاں) اور متعلقہ رہائشی خدمات کے لیے حوالگی؛ (7) آمدن میں معاونت کی خدمات بشمول سوشل سیکورٹی آمدن اور مناسب ضابطوں کے مطابق نمائندہ وصول کنندہ حاصل کرنے کے ضمن میں معاونت؛ (8) رہائشی خدمات بشمول رہائش کے لیے منصوبہ بندی؛ (9) رہائشی معاونت کے لیے اپلائی کرنے میں تکنیکی اعانت؛ اور (10) رہائش اور خدمات میں ہم آہنگی اور افراد کی مناسب رہائش اور خدمات کے ساتھ مماثلت کے اخراجات میں بہتری کی شکل میں رسائی کرتا ہے۔ ان کے سروس ایریز میں اماریلو، آسٹن، بیومونٹ، کونرے، کورپس کرسٹی، ڈلاس، ایل پاسو، فورٹ روتھ، گالویسٹن، ہارلنگن، ہوسٹن، لاریڈو، لوبک، سان انتونیو، اور واکو شامل ہیں۔

اس کے علاوہ کمیونٹی سروسز بلاک گرانٹ پروگرام TDHCA کے زیر انتظام ہے۔ 2015 تا 2018 کے پروگرام کے لیے \$120 ملین سے زائد رقم ٹیکساس بھر میں کم آمدنی کے حامل رہائشیوں میں خدمات کی ترسیل کے لیے اہل اداروں کو عطا کی گئی۔ یہ خدمات غربت کے خاتمے اور خودمختاری کے فروغ کے لیے بنائی گئی ہیں۔¹⁶

اگرچہ بے گھر افراد کے متعلق ڈیٹا اب بھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن تباہ و برباد ہونے والے رہائشی یونٹس کی تعداد، پہلے سے ٹیکساس کی رہائشی مارکیٹ، FEMA کے ذریعے عارضی محفوظ جگہ کی معاونت حاصل کرنے والے ٹیکساس کے شہریوں کی تعداد کی بنیاد پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں رہائشی ضروریات کے لیے مسلسل سرگرداں ٹیکساس کے رہائشیوں کی تعداد ممکنہ طور پر زیادہ ہے۔ درج بالا معلومات اور دستیاب ڈیٹا GLO کے لیے بے گھری سے بچاؤ کے پروگرام کی ابتداء کا باعث بنا جو طوفان ہاروے کے بعد متاثرہ علاقے میں جائیداد کی گروی یا بے دخلی کے خطرے کا شکار خاندانوں کی معاونت، اور اپارٹمنٹ اور یوٹیلٹی ڈیپازٹ اور ادائیگیوں کی معاونت کے طلب گار افراد کی بے گھری سے بچاؤ کے حتمی مقصد کے ساتھ بنیادی سرگرمیوں پر مشتمل ہو گا۔

3. سماجی خدمات: 2-1-1 ٹیکساس پروگرام

ٹیکساس صحت و انسانی خدمات کے کمیشن 2-101 (THHSC) ٹیکساس کا پروگرام فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے ریاستی و مقامی صحت و انسانی خدمات کے پروگرامز کی سروس کے ساتھ ٹیکساس کے رہائشیوں کو مربوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ THHSC ریاست بھر کے 25 علاقائی معلوماتی مراکز (AICs) کے ذریعے کام کرتا ہے۔ 2-1-1 ٹیکساس سال کے 365 دن ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے دستیاب مفت، بے نام، سماجی سروس کی ہاٹ لائن ہے۔ ریاستی و مقامی صحت و انسانی خدمات کے پروگرامز رہائشی/جائے پناہ، ملازمت، خوراک/غذائیت، تجربہ کار

¹⁶ TDHCA کمیونٹی خدمات بلاک گرانٹ (CSBG) ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔

<http://www.tdhca.state.tx.us/community-affairs/csbg/index.htm>

افراد، بحران/ہنگامی حالات، آمدن/اخراجات، قانونی امداد/متاثرین، فوجداری انصاف، بڑھاپا/معذوری، صحت/میڈیکل، ذہنی صحت، اور چائلڈ کیئر/تعلیم کا احاطہ کرتے ہیں۔

GLO کو صحت و انسانی خدمات کے کمیشن (HHSC) کی جانب سے موصول شدہ معلومات کے مطابق، 1-1-2 کے عملے نے جمعرات مورخہ 24 اگست 2017 کے آغاز سے کال کی تعداد میں 37 فیصد اضافے کا مشاہدہ کیا ہے۔ کالر کی اہم ضروریات میں عوام کی جانب سے انخلاء کی عمومی معلومات اور انخلاء کے لیے ذرائع نقل و حمل اور شہری و کاؤنٹی ایمرجنسی سروسز کی جانب سے کالز شامل ہوتی ہیں۔ بروز جمعہ 25 اگست 2017 کو ٹیکساس کے معلوماتی و حوالگی نیٹ ورک (TIRN) کے عملے نے نیا مینیو آپشن بنایا جو طوفان ہاروے کا شکار کالرز کی ضروریات کو ریاست بھر کے پہلے دستیاب ایجنٹ کی طرف موڑ دیتا ہے اس طرح ان کالرز کو ترجیح دیتا ہے۔

25 اگست اور 31 اکتوبر 2017 کے درمیان، TIRN 1-1-2 کو تقریباً 670,000 کالز موصول ہوئیں۔ ذیل میں کال کا خلاصہ ہاروے سے قبل، ہاروے کے دوران (25 اگست-30 ستمبر) اور ہاروے کے بعد موصول شدہ کالز کی تعداد دکھاتا ہے۔

ذیل کا ٹیبل طوفان ہاروے کو قبل، دوران اور فوری بعد نیز طوفان ہاروے کے بعد کی وقتی مدتوں میں تقسیم کردہ کالز کی تقریباً تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ طوفان ہاروے کے دوران اور فوراً بعد کی مدت میں، ریاست ٹیکساس کے ایمرجنسی معاونت کی رجسٹری (STEAR) کالز میں بڑا اضافہ دیکھا گیا تھا۔ STEAR ایک مفت رجسٹری ہے جو مقامی ایمرجنسی منصوبہ کاروں اور ایمرجنسی کے ضمن میں ردعمل دینے والوں کو اپنی مقامی کمیونٹی میں ضروریات کے متعلق اضافی معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر عوام یہ محسوس کرتی ہے کہ انہیں ایمرجنسی یا آفت کے موقع پر اضافی معاونت درکار ہو گی تو یہ پروگرام عوام کو اپنی معلومات رجسٹری میں شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

جدول 4: 1-1-2 کال کی تعداد

کل	آپشن 5 (TIRN ایجنٹس)	آپشن 1، 4، 8 (TIRN ایجنٹس)	
154,509	N/A	154,509	طوفان ہاروے سے قبل کالز: 1-24 اگست 2017
452,916	170,105	282,811	طوفان ہاروے کے دوران کالز: 25 اگست - 30 ستمبر 2017
214,377	36,577	177,800	طوفان ہاروے کے بعد کالز: 1-31 اکتوبر 2017


مختصر وضاحت:

- آپشن 1: کمیونٹی وسائل کی معلومات اور حوالگی کی کالز۔
- آپشن 4: STEAR رجسٹریشن کالز۔
- آپشن 5: ہاروے سے متعلق آفات کی کالز۔
- آپشن 8: ذہنی صحت اور منشیات کے غلط استعمال کی معلومات اور حوالگی کی کالز۔

ان وقتی مدتوں کے دوران ضروریات کی اقسام بھی مختلف تھیں۔ طوفان ہاروے سے قبل، TIRN ایجنٹس کی جانب سے الیکٹرونک سروس ادائیگی کی معاونت اور کرائے کی ادائیگی کی معاونت کے متعلق کالز موصول کی گئیں۔ طوفان کے دوران اور اس کے فوری بعد، دو اہم ضروریات آفت کے خوراک نامے اور الیکٹرونک ادائیگی کی معاونت تھیں۔ آفت میں بحالی کے لیے سرگرداں خاندانوں

کو مختصر مدتی خوراک کی معاونت کے فوائد فراہمی کے ضمن میں ٹیکساس صحت و انسانی خدمات آفت کے ذیلی غذائیت کے معاونتی پروگرام (D-SNAP) کے ذریعے آفت میں خوراک نامے دستیاب تھے۔¹⁷


ذیل کا چارٹ موصول شدہ کالز کی 10 اہم ضروریات اور طوفان ہاروے کے دوران اور فوری بعد کالز کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔



نمونہ 9: 23 اگست - 30 ستمبر 2017 کی 10 اہم کال کی اقسام

19 دسمبر 2017 کے تازہ ترین نمبرز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ چاجائیکہ کالز کسی حد تک کم ہو گئی ہیں، لیکن TIRN طوفان ہاروے سے قبل کی نسبت اب بھی زیادہ تعداد میں کالز وصول کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں، کالز کی اقسام یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کال سینٹر اب بھی طوفان ہاروے کی آفت سے بحالی سے متعلقہ کالز وصول کر رہا ہے، جیسا کہ ذیل کے چارٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔

¹⁷ ٹیکساس صحت و انسانی خدمات۔ "آفت" SNAP ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔
<https://hhs.texas.gov/services/financial/disaster-assistance/disaster-snap>



نمونہ 10: 1 نومبر-19 دسمبر 2017 کالز کی 10 اہم اقسام

درج بالا 1-1-2 کا کال ڈیٹا ریاست بھر کے کالرز کی جانب سے درخواست کردہ ضروریات اور سروسز کے ضمن میں مددگار تخمینہ فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈیٹا سروسز جیسے یوٹیلٹی اور کرایہ داری معاونت کی اقسام کے لیے اشاریہ ہے۔ یہ ڈیٹا فنڈنگ کی فیصلہ سازی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔

4. عارضی رہائشی معاونت

14 ستمبر 2017 کو FEMA کے تعاون سے مختصر مدتی رہائش کی بحالی کے پروگرامز کے لیے ریاست کی قیادت کے طور پر گورنر گریگ ایبٹ نے GLO کو ذمہ داری سونپی۔ یہ پروگرامز FEMA کی جانب سے اہل کردہ درخواست گزاران کے لیے مستقل مرمتی اور عارضی حل کے لیے فوری رہائش کا حال فراہم کرنے کے ارادے سے بنائے گئے ہیں۔ 25 GLO فروری 2019 تک ان پروگرامز کی مسلسل نگرانی کرے گا۔ پروگرام کی تفصیلات میں درج ذیل شامل ہیں:

(a) ملٹی فیملی کرایہ اور مرمتی

اہل درخواست گزاران کے لیے مزید رہائش کی فراہمی کے سلسلے میں یہ پروگرام پہلے سے موجود ملٹی فیملی رہائش جیسے اپارٹمنٹس کی مرمتی کی سروس فراہم کرتا ہے۔ مرمتی کے لیے رضامند ہوتے ہوئے پراپرٹی کے مالکان کو آفت کے اعلان کے بعد 18 مہینے (فروری 2019) تک کے لیے اہل درخواست گزاران کو کرائے پر دینے کے لیے متفق ہونا چاہیے۔ یہ پروگرام درخواست گزاران کو انتہائی ضروری رہائش نیز ملٹی فیملی یونٹس جو آفت کے دوران متاثر ہو سکتے ہیں انہیں درکار مرمتی فراہم کرتا ہے۔ 18 مہینے کے اختتام پر، درخواست گزاران کے لیے عارضی معاونت ختم ہو جاتی ہے۔

(b) ڈائریکٹ لیز

یہ پروگرام GLO اور اس کے ذیلی وصول کنندگان کو پراپرٹیز کرائے پر لینے کے لیے مجاز کرتا ہے۔ ان پراپرٹیز کے استعمال کے ذریعے، یہ پروگرام آفت کے اعلان کے بعد 18 مہینے (فروری 2019) تک اہل درخواست گزاران کو رہائش فراہم کرتا ہے۔ 18 مہینے کے اختتام پر، درخواست گزاران کے لیے عارضی معاونت ختم ہو جاتی ہے۔

(c) تیار شدہ رہائش کے انتخابات

یہ پروگرام آفت کے اعلان کے بعد 18 مہینے (فروری 2019) تک اہل درخواست گزاران کی عارضی رہائش کے لیے تیار کردہ رہائشی یونٹس، جیسے متحرک گھر اور سفری ٹریلرز کو نجی زمین یا کمرشل جگہوں پر لگاتا ہے۔ 18 مہینے کے اختتام پر، درخواست گزاران کے لیے عارضی معاونت ختم ہو جاتی ہے۔

(d) گھر کی محدود مرمتی کے لیے براہ راست امداد

یہ پروگرام واضح طور پر تباہ شدہ گھروں کے لیے مستقل جزوی مرمتی فراہم کرتا ہے۔ مرمتیاں گھر کی معقول مارکیٹ ویلیو یا \$60,000 کے 50 فیصد سے تجاوز نہیں کر سکتیں۔

(e) جزوی مرمتی اور شیلٹرنگ کے لیے ضروری پاور (PREPS)


یہ پروگرام \$17,000 سے کم نقصان کے حامل گھروں کے لیے \$20,000 تک کی عارضی مرمتی فراہم کرتا ہے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ گھر کے اہل مالکان کے لیے یہ گھر ایک پناہ گاہ کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے، عارضی مرمتیوں میں ونڈو یونٹس، ایک (1) فعال غسل خانہ، اور کھانا پکانے کے چھوٹے آلات شامل ہو سکتے ہیں۔ PREPS کو ریاست کی جانب سے 10% اخراجات کا اشتراک درکار ہوتا ہے۔

5. انشورینس

ٹیکساس ڈیپارٹمنٹ آف انشورینس (TDI) کی 23 جنوری 2018 میں ٹیکساس سینٹ کاروبار و تجارت کی کمیٹی کو دی گئی پریزنٹیشن میں انشورینس کمپنیوں کی جانب سے اکتھے کردہ ڈیٹا، طوفان ہاروے کے مالیاتی اثرات اور دعووں کی بینڈنگ کی نگرانی کے حوالے سے بنایا گیا۔

TDI ڈیٹا کی درخواست میں کمپنیوں کے لیے درج ذیل رپورٹ کرنا درکار ہے: رپورٹ کردہ دعووں کی تعداد، ادائیگی کے حامل بند کردہ دعووں کی تعداد (ادائیگی کردہ دعوے)، ادائیگی کے بغیر بند کردہ دعووں کی تعداد، دوبارہ کھولے گئے دعووں کی تعداد، کل نقصانات کے حامل دعووں کی تعداد، ادا کردہ نقصانات کی کل رقم، اور محفوظ شدہ دعووں کی کل رقم۔ ڈیٹا کی درخواست یہ تقاضہ کرتی ہے کہ کمپنیاں درج ذیل اقسام کی انشورینس کے لیے علیحدہ سے ڈیٹا رپورٹ کریں: گھریلو مالکان، رہائشی مکان، موبائل گھریلو مالکان، فارم کے مالکان، کاروبار کے مالکان، کاروباری پراپرٹی کی کاروباری مداخلت کا حصہ، تمام دیگر کاروباری پراپرٹی، ذاتی گاڑی، کاروباری گاڑی، وفاقی سیلابی - اپنا خود تحریر کریں (NFIP) کی جانب سے براہ راست تحریر کردہ پالیسیز شامل نہیں ہیں)، نجی سیلاب، اور دیگر تمام انشورینس کی اقسام۔

گورنر ایبٹ کے 28 اگست 2017 کے آفت کے اعلان کی ڈیٹا درخواست میں 58 کاؤنٹیز شامل ہیں، اضافی طور پر ولیم سن، ٹریوس، بیز، اور ہیڈالگو کاؤنٹیز شامل ہیں۔ میلام اور سان آگسٹائن کاؤنٹیز، جو گورنر ایبٹ نے 14 ستمبر 2017 کو آفت کے اعلان میں شامل کیں، وہ اس میں شامل نہیں تھیں۔



نمونہ 11: طوفان ہاروے کی ڈیٹا کال برائے کاؤنٹیز - علاقائی نقشہ


تقریباً 850 انشورینس کمپنیاں یا ٹیکساس میں کل پراپرٹی اور گاڑیوں کی مارکیٹ کا 98 فیصد نے ڈیٹا درخواست کے لیے جواب دیا۔ TDI نے درخواست کی کہ انشورینس کمپنیاں 30 ستمبر 2017 تک ڈیٹا بھجوائیں۔ وہ انشورینس کمپنیاں جو ستمبر کی ڈیڈ لائن پر پورا اترنے سے قاصر تھیں، انہیں نے 31 اکتوبر 2017 تک ڈیٹا ارسال کر دیا۔

دعووں کی تعداد

نجی بیمہ کاران، TIWA اور ٹیکساس FAIR پلان میں تمام ذاتی اور کاروباری انشورینس کے لیے کل 670,000 دعووں کا اندراج کیا گیا۔ اس میں 354,000 رہائشی پراپرٹی کے دعوے اور 203,000 گاڑیوں کے دعوے شامل ہیں۔ رہائشی پراپرٹی 226,000، 113,000 رہائشی مکان، اور 15,000 موبائل گھریلو مالکان کے دعووں پر مشتمل ہے۔

انشورینس کمپنیوں نے دعوے کی ادائیگی (ادا کردہ نقصانات) کے ضمن میں \$4.5 بلین اور کل ادائیگی کے لیے \$15.7 بلین ادا کیے۔ کیونکہ مزید دعوے رپورٹ، طے اور بند کیے جا رہے ہیں اس لیے یہ رقم تبدیل ہو گی۔

دعووں کی اکثریت رہائشی پراپرٹی کی انشورینس کے لیے ہے۔ زیادہ تر نقصانات سیلاب کی انشورینس اور گاڑیوں کے دعووں کے حوالے سے ہیں۔ گاڑی کی انشورینس میں عمومی طور پر سیلاب سے ہونے والے نقصان کی "جامع" کوریج کے تحت احاطہ کیا جاتا ہے، جبکہ رہائشی پراپرٹی کی انشورینس میں سیلاب سے ہونے والی نقصان کے لیے کوریج فراہم نہیں کی جاتی۔




نمونہ 12: کل رپورٹ کردہ دعوے، ادا کردہ نقصانات کی رقم، اور انشورینس کی قسم کے مطابق تخمینہ کردہ حتمی کل نقصانات¹⁸

تقریباً 27 فیصد دعووں میں ادائیگی کی گئی (خسارے کی ادائیگی کے ساتھ بند کیے گئے)، 28 فیصد دعووں کو بغیر خسارے کی ادائیگی کے ساتھ بند کیا گیا، 44 فیصد دعوے ابھی تک کھلے ہیں اور تمام اقسام کی انشورینس میں 7 فیصد دعووں کو دوبارہ کھولا گیا۔

وہ دعویٰ جو کھلا ہو وہ جزوی ادائیگیوں، جیسے رہائش کے اضافی اخراجات یا کاروباری مداخلت نیز نقصان کی مدت میں ادائیگیوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔

ادائیگی کے بغیر دعویٰ میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں: نقصان کٹوتیوں سے زائد ہو، نقصان ایسے خطرے کی وجہ سے ہوا جو پالیسی کے تحت احاطہ کردہ نہ ہو، نقصان ہوتے وقت پالیسی ہولڈر کی پالیسی موثر نہ ہو، یا دعویٰ دوبارہ دعویٰ ہو۔

¹⁸ ٹیکساس ڈیپارٹمنٹ برائے انشورینس۔ "طوفان ہاروے ڈیٹا کال - سینٹ کی کاروباری و تجارتی کمیٹی کے لیے پریزنٹیشن۔" جنوری 23،




نمونہ 13: تصفیہ کی حیثیت اور انشورینس کی قسم کی رو سے دعوؤں کی تعداد

رہائشی پراپرٹی


درج ذیل چارٹ تصفیہ کی حیثیت اور جگہ کے مطابق رہائشی پراپرٹی کے دعوؤں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ علاقے کی تقسیم میں شامل کردہ کاؤنٹیز کے لیے، نمونہ 11 سے رجوع کریں: طوفان ہاروے ڈیٹا کال کاؤنٹیز - علاقائی نقشہ۔ رہائشی پراپرٹی انشورینس میں گھر کے مالکان، موبائل گھر کے مالکان، اور رہائشی مکان کی انشورینس شامل ہے۔

رپورٹ کردہ دعوؤں کی تعداد



نمونہ 14: تصفیے کی حیثیت اور علاقے کے مطابق رہائشی پراپرٹی کے دعووں کی تعداد

ساحلی خمدار علاقے میں دعووں کی مجموعی شرح فیصد -25 فیصد کے مقابلے میں غیر متناسب نقصان کی رقم - 43 فیصد ہے۔ ساحلی خمدار علاقے کا جب دیگر علاقوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہاں رہائشی پراپرٹی کے نقصان کی بلند ترین اوسط بھی ہے۔



نمونہ 15: رہائشی پراپرٹی کے مجموعی نقصانات اور علاقے کے مطابق نقصانات کی رقم

6. قومی سیلاب کی انشورینس کا پروگرام

قومی سیلاب کی انشورینس کا پروگرام (NFIP) ایک FEMA کا پروگرام ہے جو شریک کمیونٹیز میں پراپرٹی مالکان کے لیے کم قیمت انشورینس فراہم کرنے کے لیے کام کرتا ہے اور سیلابی میدان کی مینجمنٹ ضابطوں کے اطلاق اور انتخاب کے لیے کمیونٹیز کی حوصلہ افزائی کے لیے کام کرتا ہے۔ سیلاب کے زائد خطرے کے حامل علاقوں میں، کانگریس نے حکم دیا ہے کہ وفاقی طور پر تنظیم کردہ یا بیمہ دار قرض دینے والے اداروں کے لیے رہن شدہ پراپرٹیز پر انشورینس ضروری ہے۔¹⁹ NFIP گھریلو مالکان کے لیے دو اقسام کی سیلاب کی انشورینس کی کوریج فراہم کرتا ہے: عمارتی پراپرٹی کی \$250,000 تک کوریج؛ اور ذاتی پراپرٹی کی \$100,000 تک کوریج (مشمولات)۔²⁰


درج ذیل معلومات 14 دسمبر 2017 کو FEMA کی جانب سے فراہم کردہ طوفان ہاروے کے براہ راست نتیجے میں ریاست ٹیکساس میں NFIP کے دعووں میں اہم اضافے کو ظاہر کرتی ہیں۔ 89,000 سے زائد دعووں کا اندراج کیا گیا۔ 54,000 (61 فیصد) سے زائد کلیمز فعال/کھلے ہوئے ہیں جبکہ 24,000 (28 فیصد) سے زائد کلیمز بند ہو گئے ہیں۔ یہاں تقریباً 10,000 (11 فیصد) کلیمز ادائیگی کے بغیر بند ہوئے۔ مجموعی طور پر، اس مدت کے دوران اوسط \$38,361 کی ادائیگی کے ساتھ \$3.42 بلین سے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں۔ اس وقت کے دوران روزانہ کے ڈیٹا کی تقسیم کے مطابق، 25 اگست کو طوفان ہاروے کے زمین سے ٹکرانے والے دن دعووں میں بڑا اضافہ دیکھا گیا۔

¹⁹ FEMA قومی سیلاب کی انشورینس کا پروگرام۔" ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔

<https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program>


²⁰ FEMA "NFIP کی کوریج کا خلاصہ۔" ویب پیج/PDF تک 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1620-20490-4648/f_679_summaryofcoverage_11_2012.pdf

ٹیکساس میں این ایف آئی پی دعوؤں کا دائرہ (جون - اکتوبر 2017)
نقصان کی تاریخ تک



نمونہ 16: جون تا اکتوبر 2017 میں NFIP کے دعوے


ٹیکساس میں این ایف آئی پی دعوؤں کا دائرہ (اگست 23 - ستمبر 5،
2017) نقصان کی تاریخ تک



نمونہ 17: تاریخ نقصان کے مطابق ٹیکساس میں دائر کردہ NFIP کے دعوے

دعوؤں کی علاقائی جگہوں میں تقسیم کے ساتھ، یہ مزید واضح ہو گیا ہے کہ دعوے طوفان ہاروے سے متعلق ہیں، چونکہ دعوؤں کی زیادہ تر تعداد ان جگہوں سے آرہی ہے جو 49 اہل کاؤنٹیز میں شامل ہیں جس میں سب سے زیادہ تعداد میں دعوے ہوسٹن کے علاقے سے آرہے ہیں۔

این ایف آئی پی دعوؤں کا دائرہ (2017)



نمونہ 18: 2017 میں شہر کے مطابق NFIP میں دائر کردہ دعوے


NFIP کا ڈیٹا ان انشورینس دعوؤں کی شناخت کرتا ہے جو مسلسل نقصان (RL) کیٹگری میں آتے ہیں۔ RL پر اپرٹی کوئی بھی قابل بیمہ عمارت ہے جس کے لیے \$1,000 سے زائد کے دو یا زائد دعوؤں کی ادائیگی کی گئی ہو۔ یہاں ملک بھر میں 120,000 سے زائد RL پر اپرٹیز ہیں، جن میں سے ٹیکساس می 27,000 سے زائد پر اپرٹیز ہے۔ یہ RL عمارات NFIP فنڈ پر دباؤ کا باعث ہیں، اور فی الحال یہ فنڈ پر سب سے بڑا بوجھ ہیں۔ یہ نہ صرف NFIP کے سالانہ نقصانات (قرض کی ضرورت میں اضافہ) کو بڑھاتے ہیں، بلکہ مستقبل کے تباہ کن واقعات کا سدباب کرنے کے لیے ضروری فنڈز کے انخلاء کا باعث بنتا ہے۔²¹

طوفان ہاروے NFIP 4,450 کے دعوؤں کا باعث بنا جنہیں مسلسل خسارے کے طور پر نامزد کیا گیا۔ ان دعوؤں کی اکثریت 3,073 یا 68 فیصد - بیرس کاؤنٹی میں درج کیے گئے۔ درج ذیل گراف اس مدت کے دوران رپورٹ کردہ RL پر اپرٹیز کی سب سے بڑی تعداد کی حامل کاؤنٹیز کو نمایاں کرتا ہے۔

²¹ FEMA. مسلسل نقصان اکثر پوچھے جانے والے سوال۔ "ویب پیج/متن تک 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔


https://www.fema.gov/txt/rebuild/repetitive_loss_faqs.txt

منتخب رپورٹ کرنے والی کاؤنٹی کے ذریعہ بار بار گھروں کے نقصانات
باروے کے دوران نقصان (23 اگست - ستمبر 5، 2014)



نمونہ 19: منتخب کردہ کاؤنٹیز کے مطابق NFIP کے مسلسل خسارے کے حامل گھر

اضافی طور پر، درج ذیل نقشہ طوفان باروے کے دعویٰ کی حامل RL پراپرٹیز کے زپ کوڈ کے مطابق ارتکاز کو ظاہر کرتا ہے۔ زپ کوڈز اور دریا کے ساتھ RL پراپرٹیز جیسے دریائے گواڈا لوپ کے مابین باہمی تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ہیرس کاؤنٹی بھر میں موجود RL پراپرٹیز کا بلند ارتکاز موجود ہے۔



نمونہ 20: زپ کوڈ کے مطابق NFIP کے مسلسل نقصان کے دعویٰ (23 اگست - 5 ستمبر 2017)

7. ٹیکساس طوفانی ہواؤں سے انشورینس کی ایسوسی ایشن (TWIA)

ٹیکساس طوفانی ہواؤں سے انشورینس ایسوسی ایشن (TWIA) ٹیکساس کے قانون ساز کی جانب سے اگست 1970 میں طوفان سیلیا کے بعد علاقائی مارکیٹ کے حالات کے جواب میں 1971 میں تشکیل دی گئی۔ TWIA کا مقصد ٹیکساس کے ساحلی علاقے کے لیے طوفانی ہواؤں اور اولے سے انشورینس کی فراہمی ہے۔

TWIA حتمی حل کے طور پر بیمہ کار ہے اور یہ رضاکارانہ انشورینس مارکیٹ کا براہ راست حریف نہیں ہے۔ وہ ٹیکساس کے ساحلی علاقے میں چند مخصوص حصوں میں رہائشی و کاروباری پراپرٹیز کے لیے کوریج فراہم کرتے ہیں۔ مخصوص کردہ تباہ شدہ جگہ وہ ساحلی علاقے کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں انشورینس کا کمشنر یہ تعین کرے کہ طوفانی ہوا اور آندھی کی انشورینس مناسب طور پر دستیاب نہیں ہے۔


طوفان ہاروے کے لیے دائر کردہ TWIA کے دعووں کی کل تعداد 74,266 ہے، جن میں نویس کاؤنٹی میں دعووں کی سب سے زیادہ تعداد 24,967 یا 34 فیصد دائر کی گئی۔ ذیل کا نقشہ ساحلی علاقے میں دعووں کی نمائندہ تصویر فراہم کرتا ہے۔ کل معاوضے کی ادائیگیاں، جو کہ براہ راست بیمہ شدہ کے لیے فرسٹ-پارٹی کوریج کے ضمن میں ادا کردہ نقصانات یا جس کی ادائیگی متوقع ہو، ان کا مجموعہ \$958 ملین سے زائد بنتا ہے۔ ادا شدہ اخراجات، دعوؤں کی درستگی کے اخراجات جو مخصوص دعووں کے لیے چارج نہیں کیے جا سکتے، ان کا مجموعہ \$101 ملین سے زائد بنتا ہے۔ دعووں کی مد میں سب سے زیادہ کل ادا کردہ اوسط ارنسٹس کاؤنٹی میں پائی گئی جہاں فی دعویٰ \$68,149 کی اوسط رہی۔ دعووں کی مد میں کم ترین ادا کردہ اوسط کلیبرگ کاؤنٹی میں رہی جہاں فی دعویٰ \$938,33 کی اوسط رہی۔ کلیبرگ کاؤنٹی میں 38 نئے کلیمز کی صورت میں کم ترین تعداد کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔

جدول 3: کاؤنٹی کے مطابق TWIA دعوے

کاؤنٹی	نئے دعوے	بند کردہ دعوے	کھلی انویٹری	% بند شدہ	ادا کردہ معاوضہ	ادائیگی کی لاگت	اوسط ادائیگی
ارنسٹس	7,078	5,623	1,455	79.4%	\$ 411,754,777	\$ 17,477,609	\$ 68,149
برازوریا	4,035	3,911	124	96.9%	\$ 10,328,579	\$ 4,375,109	\$ 6,484
کال ہون	2,553	2,391	162	93.7%	\$ 24,066,466	\$ 3,848,723	\$ 11,908
کیمرون*	40	36	4	90.0%	\$ 872,656	\$ 132,926	\$ 58,177
چیمبرز	1,002	975	27	97.3%	\$ 3,442,032	\$ 1,121,065	\$ 7,931
گالویسٹون	11,025	10,608	417	96.2%	\$ 34,920,052	\$ 13,338,808	\$ 7,474
بیرس	593	565	28	95.3%	\$ 3,046,684	\$ 744,287	\$ 9,260
جیفرسن	9,893	9,511	382	96.1%	\$ 29,189,030	\$ 10,494,094	\$ 6,197
کلیبرگ	38	38	-	100.0%	\$ 102,390	\$ 36,200	\$ 3,938
میٹاگورڈا	869	851	18	97.9%	\$ 3,743,109	\$ 996,054	\$ 6,830
نویس	24,967	23,418	1,549	93.8%	\$ 327,009,711	\$ 36,483,090	\$ 16,247
ریفوجیو	414	349	65	84.3%	\$ 15,996,605	\$ 904,222	\$ 45,705

اوسط ادائیگی	ادائیگی کی لاگت	ادا کردہ معاوضہ	% بند شدہ	کھلی انویٹری	بند کردہ دعوے	نئے دعوے	کاؤنٹی
\$ 16,924	\$ 11,590,970	\$ 94,316,008	92.2%	522	6,188	6,710	سان پیٹریسیو
\$ 0	\$ 0	\$ 0	99.8%	9	5,040	5,049	کوئی پالیسی نہیں اور غیر تصدیق شدہ
\$ 17,994	\$ 101,543,157	\$ 958,788,099	93.6%	4,762	69,504	74,266	کل مجموعہ

ذیل میں دیا گیا نقشہ متاثرہ علاقوں کی حدود میں ٹیکساس کے خلیجی ساحل کے ساتھ موجود TWIA اہل کاؤنٹیز اور ہر TWIA اہل کاؤنٹی میں کلیمز کی تعداد کی شناخت کرتا ہے۔



نمونہ 21: کاؤنٹی کے مطابق TWIA باروں کے دعوے (23 جنوری 2018)

8. شمال بزنس کی اعانت (SBA) آفت میں گھر کے قرضے

گھروں کے مالکان جنہیں طوفان ہاروے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ان کے لیے شمال بزنس ایڈمنسٹریشن (SBA) کے آفت کے لیے قرضوں کی صورت میں ایک اور سہارا ہے۔ وہ گھریلو مالکان جن کی نجی پراپرٹی کو نقصان ہوا ہو جو انشورینس کی جانب سے مکمل طور پر احاطہ کردہ نہ ہو اس کے لیے یہ قرضے وفاقی معاونت کی ایک بنیادی شکل ہیں۔ گھریلو مالکان اور کرایہ داران جن کی پراپرٹی اعلان کردہ آفت کے نتیجے میں تباہ ہوئی ہو وہ SBA کم سود پر قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان قرضوں پر شرح سود کا تعین قانون کے مطابق کیا جاتا ہے اور کیس در کیس کی بنیاد پر تفویض کیے جاتے ہیں۔

طوفان ہاروے سے مخصوص معاونت میں اگر درخواست گزار کو کہیں اور سے کریڈٹ دستیاب نہ ہو تو شرح سود 1.75 فیصد اور اگر کریڈٹ کہیں اور دستیاب ہو تو شرح سود 3.5 فیصد ہے۔ یہ گھریلو قرضے رئیل اسٹیٹ کی مرمتی یا تبدیلی کی صورت میں \$200,000 اور ذاتی پراپرٹی کی مرمتی یا تبدیلی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ \$40,000 تک محدود ہیں۔²²

7 دسمبر 2017 تک SBA کی جانب سے \$2.5 بلین سے زائد کے گھریلو قرضوں کی منظوری دی گئی۔ کاؤنٹی اور حکومتی کونسلز (COG) کی جانب سے ذیل میں منظور شدہ قرضوں کی زمرہ بندی کی گئی ہے۔

جدول 4. SBA کی جانب سے منظور کردہ کل قرضے

کل گھریلو قرضے	COG	کاؤنٹی
\$ 244,500	AACOG	کیرنز
\$ 244,500		AACOG کل
\$ 66,400	BVCOG	گرائمز
\$ 66,400		BVCOG کل
\$ 1,037,700	CAPCOG	باسٹروپ
\$ 482,600	CAPCOG	کلینڈول
\$ 3,853,300	CAPCOG	فیٹے
\$ 135,500	CAPCOG	لی
\$ 5,509,100		CAPCOG کل
\$ 58,387,400	CBCOG	ارنساس
\$ 1,359,200	CBCOG	بی
\$ 117,300	CBCOG	کلیرنگ
\$ 50,410,000	CBCOG	نوسیس
\$ 8,184,000	CBCOG	ریفیو جیو
\$ 29,469,000	CBCOG	سان پیٹریشیو
\$ 147,926,900		CBCOG کل
\$ 3,268,300	DETCOG	جیسپر
\$ 5,591,900	DETCOG	نیوٹن
\$ 1,509,000	DETCOG	پولک
\$ 16,800	DETCOG	سیبائن

²² امریکی شمال بزنس ایڈمنسٹریشن حقائق نامہ۔ 7 نومبر 2017 "آفت کے لیے قرضے، ٹیکساس اعلان #15274 اور #15275۔"

کل گھریلو قرضے	COG	کاؤنٹی
\$ 2,385,800	DETCOG	سان جاکنتو
\$ 1,485,300	DETCOG	ٹیلر
\$ 14,257,100		DETCOG کل
\$ 8,089,500	GCRPC	کالہون
\$ 1,290,800	GCRPC	ڈیوٹ
\$ 1,769,300	GCRPC	گولیاڈ
\$ 316,400	GCRPC	گونزالیز
\$ 1,114,400	GCRPC	جیکسن
\$ 653,600	GCRPC	لاواکا
\$ 19,325,500	GCRPC	وکتوریا
\$ 32,559,500		GCRPC کل
\$ 901,800	H-GAC	اسٹن
\$ 110,839,900	H-GAC	بریزوریا
\$ 46,932,500	H-GAC	چیمبرز
\$ 857,800	H-GAC	کولریڈو
\$ 262,415,100	H-GAC	فورٹ بینڈ
\$ 206,936,400	H-GAC	گالویسٹن
\$ 1,088,729,500	H-GAC	بیرس
\$ 23,513,800	H-GAC	لیبرٹی
\$ 5,435,500	H-GAC	میٹا گورڈا
\$ 50,882,400	H-GAC	منٹگمری
\$ 765,700	H-GAC	واکر
\$ 4,655,200	H-GAC	ویلر
\$ 15,949,200	H-GAC	وہارٹن
\$ 1,818,814,800		H-GAC کل
\$ 93,195,600	SETRPC	بارٹن
\$ 223,166,700	SETRPC	جیفرسن
\$ 230,145,700	SETRPC	اورنج
\$ 546,508,000		SETRPC کل
\$ 2,565,886,300		کل مجموعہ

9. عوامی رہائشی معاونت (PHA) کا ڈیٹا

پبلک ہاؤسنگ اتھارٹی کے یونٹس پر اثر، سیکشن 8، اور رہائش کے انتخاب کے واؤچرز HUD کی جانب سے GLO کو فراہم کیے گئے تھے۔ نومبر 2017 میں، HUD نے ابتدائی نقصان کے تخمینے اور متاثرہ یونٹس کی تعداد اکٹھی کی۔ CBCOG، H-GAC، اور SETRPC میں عوامی رہائشی یونٹس کی سب سے زیادہ تعداد متاثر ہوئی۔

جدول 5. کل متاثرہ یونٹس اور نقصان کے تخمینے

PHA کا نقصان تخمینہ	کل متاثرہ یونٹس	متاثرہ عوامی رہائشی یونٹس	سیکشن 8 یا رہائش منتخب کرنے کے واؤچرز - متاثر شدہ	COG
\$6,080	46	46	0	AACOG
-	0	0	0	BVCOG
\$71,413	8	8	0	CAPCOG
\$8,663,600	410	313	97	CBCOG
\$146,755	21	19	2	DETCOG
\$1,347,300	136	120	16	GCRPC
\$12,431,369	579	234	345	H-GAC
\$2,924,300	688	323	365	SETRPC
-	48	0	48	کل ریاستی
\$ 25,590,817	1,936	1,063	873	کل مجموعہ

عوامی رہائشی حکام FEMA کی عوامی معاونت کے اہل ہیں۔ 1 فروری 2018 تک ذیل کا جدول COG ریجن کے مطابق FEMA کی فراہم کردہ عوامی رہائشی حکام کے لیے FEMA عوامی معاونت کی تخمینہ کردہ لاگت اور نامکمل ضرورت کا ظاہر کرتا ہے۔ وفاق کی جانب سے لاگت کے 90 فیصد کا تخمینہ شدہ لاگت کی رقم کے ساتھ اشتراک کی وجہ سے، تخمینہ کردہ لاگت کی رقم کے بقیہ 10 فیصد بشمول بحالی کے ضارب کے طور پر تخمینہ کردہ لاگت کے 15 فیصد سے PA کی نامکمل ضرورت کے مجموعے کا حساب لگایا جائے گا۔

مستقل کام کے لیے تخمینے آئندہ کے چند مہینوں تک مسلسل آئیں گے، جیسا کہ تخمینہ کردہ نقصانات کے درمیان دکھایا گیا ہے کہ نومبر میں اکٹھے کردہ HUD اور تخمینہ کردہ لاگتیں جو عوامی رہائشی حکام نے FEMA عوامی معاونت پروگرام کو ارسال کی ہیں۔

جدول 6. عوامی رہائشی حکام FEMA PA تخمینہ کردہ لاگ اور COG ریجن کے مطابق نامکمل ضروریات

نامکمل ضرورت	تخمینہ کردہ لاگت	COG
\$433,325	\$ 1,733,303	CBCOG
\$152,090	\$ 608,363	GCRPC
\$13,518,809	\$ 54,075,237	H-GAC
\$4,837,820	\$ 19,351,280	SETRPC
\$18,942,046	\$75,768,184	کل مجموعہ

10. FEMA انفرادی معاونت FEMA

کی جانب سے 2 فروری 2018 کو وصول کردہ انفرادی معاونت (IA) کا ڈیٹا طوفان ہاروے سے متاثر ہونے والے تمام رہائشی درخواست گزاران کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ معلومات پھر کاؤنٹی اور COG کے مطابق نامکمل ضروریات کا حساب لگانے کے لیے استعمال کی گئی اور کرایہ دار اور مالک کے ذیلی سیٹ میں تقسیم کی گئی۔ FEMA کے مطابق 896,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ اس میں سے FEMA نے تصدیق کی کہ 291,000 سے زائد درخواست گزاران کا FEMA کا تصدیق شدہ نقصان \$0 (FVL) سے زائد ہے۔

\$8,000 سے زائد کے حقیقی پراپرٹی کے نقصان کی حامل اہل کاؤنٹیز میں ملکیتی قبضے کے حامل درخواست گزاران کی کل تعداد 94,792 ہے۔ \$2,000 سے زائد کے ذاتی پراپرٹی کے نقصان کی حامل اہل کاؤنٹیز میں کرایہ دار درخواست گزاران کی کل تعداد 38,085 ہے۔

نامکمل ضروریات کے حساب کے لیے اوپری حد کو استعمال کرتے ہوئے، 132,877 درخواست گزاران میں سے (71) 94,792 فیصد) ملکیتی قبضے کے حامل گھر ہیں، جبکہ (29) 38,085 فیصد) کرایہ داروں پر مشتمل ہیں۔

جدول 7: کل IA درخواستیں

قبضے کی نوعیت	کل درخواستیں	\$0 سے زائد کا FEMA کا تصدیق شدہ نقصان (FVL)	نامکمل ضرورت کے حامل درخواست گزاران
مالک	445,525	210,543	94,792
کرایہ دار	446,337	80,679	38,085
بیان نہیں	4,348	116	0
کل	896,210	291,338	132,877

a. کل نامکمل ضروریات

GLO نے اہل کاؤنٹی کی جانب سے تخمینہ کردہ مرمت کی لاگتوں اور رہائش کی نامکمل ضروریات کی دستاویز بندی کے سلسلے میں انفرادی معاونت کے لیے FEMA سے حاصل کردہ معلومات مرتب کی ہیں۔ استعمال کردہ آبادی کے ڈھانچے میں ملکیتی قبضے کے حامل گھرانے اور کرایہ دار گھرانے شامل ہیں۔ اس تجزیے کے ارادے سے، GLO دونوں اقسام کے گھرانوں کی نامکمل ضرورت کے لیے HUD طریقہ کار کے چند عناصر کو استعمال میں لا رہا ہے۔

ملکیتی قبضے کے حامل گھر

ملکیتی قبضے کے حامل گھرانوں کی پراپرٹی کے حقیقی نقصان کی سطح کا حساب کرنے کے لیے، درج ذیل معیار استعمال کیا گیا:

- اہم-کم FEMA کی تصدیق شدہ نقصان کا \$8,000 تا \$14,999
- اہم-زیادہ FEMA کی تصدیق شدہ نقصان کا \$15,000 تا \$28,800
- شدید: FEMA کے تصدیق شدہ نقصان کے \$28,800 سے زائد۔

کرایہ دار کے زیر قبضہ گھر

کرایہ دار کے لیے ذاتی پراپرٹی کے نقصان کی سطح کے حساب کے لیے، درج ذیل معیار استعمال کیا گیا:

- اہم-کم FEMA کی تصدیق شدہ نقصان کا \$2,000 تا \$3,499
- اہم-زیادہ FEMA کی تصدیق شدہ نقصان کا \$3,500 تا \$7,499
- شدید: FEMA کے تصدیق شدہ نقصان کے \$7,500 سے زائد۔

تخمینہ کردہ نامکمل ضرورت کا حساب کرنے کے لیے، HUD نے HUD کی جانب سے فراہم کردہ ضارب استعمال کیا۔ یہ ضارب مخصوص آفت کی کیٹگری کے لیے SBA کی مرمتی کی اوسط لاگت تفریق SBA اور FEMA کی مرمتی کی متوقع لاگتوں کی اوسط پر مبنی ہوتے ہیں۔ HUD کو فراہم کردہ FEMA انفرادی معاونت کے ڈیٹا کی بنیاد پر، متوقع SBA اور FEMA کی ہر کیٹگری کے لیے مرمتی کی کل لاگت کی تخمینہ کردہ اوسط ذیل کے جدول میں دکھائی گئی ہے۔

جدول 8: نقصان کی کیٹگری کے مطابق نامکمل ضروریات کا ضارب


کیٹگری	ضارب کی رقم
اہم-کم	\$58,956
اہم-زیادہ	\$72,961
شدید	\$102,046

ذیل کا جدول ملکیتی اور کرایہ دار کے زیر قبضہ گھروں کے لیے کل نامکمل ضروریات کا تجزیہ فراہم کرتا ہے۔ یہ سابقہ طور پر واضح کردہ تین کیٹگریز کے لیے نقصان کی کیٹگری اور کل شمار فراہم کرتا ہے۔

جدول 9: مالکان اور کرایہ داروں کے مطابق نامکمل ضروریات کی کیٹگری

نقصان کی کیٹگری / ضارب	کل شمار	کل مالکان کے زیر قبضہ اور کرایہ داری کی نامکمل ضروریات	مالکان کا شمار	مالکان کی کل نامکمل ضروریات	کرایہ داری کا شمار	کرایہ داری کی کل نامکمل ضروریات
اہم-کم: \$58,956	47,135	\$2,778,891,060	33,749	\$1,989,706,044	13,386	\$789,185,016
اہم-زیادہ: \$72,961	63,455	\$4,629,740,255	43,430	\$3,168,696,230	20,025	\$1,461,044,025
شدید: \$102,046	22,287	\$2,274,299,202	17,613	\$1,797,336,198	4,674	\$476,963,004
کل	132,877	\$9,682,930,517	94,792	\$6,955,738,472	38,085	\$2,727,192,045

جیسا کہ جدول میں واضح کیا گیا ہے، مالکان کی نامکمل ضرورت \$6.95 بلین (72 فیصد) ہیں اور کرایہ دار کی نامکمل ضرورت \$2.72 بلین (28 فیصد) ہے، جو \$9.68 بلین کی کل نامکمل ضرورت پر منتج ہوتا ہے۔ فی کاؤنٹی کل لاگت کے ذریعے کل نامکمل ضرورت کی تقسیم درج ذیل نقشے میں دکھائی گئی ہے۔




نمونہ 22: کاؤنٹی کے مطابق رہائش کی کل نامکمل ضرورت

اس CDBG-DR کی تفویض کے لیے HUD کے تقاضے یہ بیان کرتے ہیں کہ GLO کو LMI آبادیوں کے فائدے کے لیے کم از کم 70 فیصد استعمال کرنا چاہیے۔ GLO نے اہل کاؤنٹیز میں آمدن کی کچھ کیٹگریز میں آنے والی آبادی کی شرح فیصد کا حساب کرنے کے لیے FEMA کی جانب سے فراہم کردہ خود کار رپورٹ کردہ درخواست گزار کی معلومات استعمال کی ہیں۔ نامکمل ضرورت کی آبادی کا تقریباً 46 فیصد LMI کیٹگری میں 80 فیصد سے نیچے ہے۔ LMI آبادی کے لیے نامکمل ضرورت \$4.45 بلین سے زائد ہے۔ تمام اہل کاؤنٹیز کے لیے آمدن کی کیٹگری کے مطابق نامکمل ضرورت ذیل کے جدول میں دیکھی جا سکتی ہے۔

جدول 10: آمدن کی کیٹگری کے مطابق نامکمل ضرورت/مالکانہ اور کرایہ دار

آمدن کی کیٹگری	شمار	نامکمل ضرورت	گنتی کا %	نامکمل ضرورت کا %
0-30%	27,979	\$1,994,009,794	21%	21%
31-50%	13,931	\$989,568,056	10%	10%
51-80%	20,387	\$1,467,143,877	15%	15%
LMI نہیں	54,001	\$4,011,361,441	41%	41%
رپورٹ شدہ نہیں	16,579	\$1,220,847,349	12%	13%
کل	132,877	\$9,682,930,517	100%	100%


ذیل کا نقشہ آفت کے بعد بحالی کے لیے کمیونٹی کی صلاحیت کا جائزہ لیتے وقت اضافی پرت فراہم کرتا ہے۔ یہ کل مالکان اور کرایہ دار گھرانوں کے لیے فی کس نامکمل ضرورت کا تلافی بدل ہے۔ جب کمیونٹی کی بحالی کی صلاحیت کو زیر غور لایا جائے تو نامکمل ضرورت کی فی کس رقم ایک اہم عنصر ہے۔ فی کس نامکمل ضرورت ان دیہی کاؤنٹیز پر اثرات کی مزید درستگی کے ساتھ وضاحت کی اجازت دیتی ہے جن کے پاس اپنے بل بوتے پر بحالی کے لیے وسائل دستیاب نہیں ہوتے۔ طوفان ہاروے کی صورت میں، انتہائی متاثر کاؤنٹیز کے لیے فی کس نامکمل ضرورت کی رینج \$180 (نوسیس) سے \$8,077 (ورنچ) ہے۔



نمونہ 23: رہائش کا فی کس نامکمل ضرورت کا مجموعہ

b. مالکانہ نامکمل ضرورت

مالکان کے گھروں کے لیے فی کاؤنٹی کل لاگت کے مطابق نامکمل ضرورت کی تقسیم ذیل کے نقشے میں دکھائی گئی ہے۔



نمونہ 24: کاؤنٹی کے مطابق مالکان کی نامکمل ضرورت


مالکان کی نامکمل ضرورت کا تقریباً 38 فیصد LMI کیٹیگری میں 80 فیصد سے نیچے ہے۔ مالکان کے لیے LMI آبادی کے لیے نامکمل ضرورت \$2.59 بلین سے زائد ہے۔ تمام اہل کاؤنٹیز کے لیے مالکان کے گھروں کے لیے آمدن کی کیٹیگری کے مطابق نامکمل ضرورت ذیل کے جدول میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ یہ ڈیٹا مالکان کی معاونتی پروگرام، مقامی خریداری و حصول کے پروگرام اور گھریلو مالکان کو نقصان کی ادائیگی کے پروگرام کی ڈویلپمنٹ کے ضمن میں GLO کو آگاہ رکھتا ہے۔

جدول 11. آمدن کی کیٹگری کے مطابق مالک کی نامکمل ضرورت

آمدن کی کیٹگری	شمار	نامکمل ضرورت	گنتی کا %	نامکمل ضرورت %
0-30%	13,725	\$973,564,965	14%	14%
31-50%	8,563	\$608,376,403	9%	9%
51-80%	14,108	\$1,013,678,713	15%	15%
LMI نہیں	46,567	\$3,475,619,542	49%	50%
رپورٹ شدہ نہیں	11,829	\$884,498,849	12%	13%
کل	94,792	\$6,955,738,472	100%	100%

c. کرایہ دار کے زیر قبضہ کی نامکمل ضرورت

A کرایہ دار درخواست گزاران کے لیے کل لاگت کے مطابق فی کاؤنٹی نامکمل ضرورت کی تقسیم ذیل کے نقشے میں دکھائی گئی ہے۔



نمونہ 25: کاؤنٹی کے مطابق کرایہ دار کی نامکمل ضرورت

GLO نے LMI کیٹگریز کے اندر کرایہ دار گھرانوں کی آبادی کی شرح کا حساب لگایا۔ نامکمل ضرورت کا تقریباً 68 فیصد LMI کیٹگری کے 80 فیصد سے نیچے ہے۔ کرایہ داروں کے لیے LMI آبادی کے لیے نامکمل ضرورت \$1.85 بلین سے زائد ہے۔ کرایہ داروں کے لیے تمام اہل کاؤنٹیز میں آمدن کی کیٹگری کے مطابق نامکمل ضرورت ذیل کے جدول میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ معلومات کم قیمت کرائے کے پروگرام

کے حوالے سے آگاہ رکھتی ہیں، جو کہ طوفان ہاروے سے متاثرہ علاقوں میں ملٹی فیملی کم قیمت ہاؤسنگ پراجیکٹس کی نئی تعمیر، تعمیر نو اور بحالی کے لیے فنڈز کی فراہمی کے لیے بنائی گئی تھی۔

جدول 12۔ آمدن کی کیٹگری کے مطابق کرایہ دار کی نامکمل ضرورت

آمدن کی کیٹگری	شمار	نامکمل ضرورت	گنتی کا %	نامکمل ضرورت کا %
0-30%	14,254	\$1,020,444,829	37%	37%
31-50%	5,368	\$381,191,653	14%	14%
51-80%	6,279	\$453,465,164	16%	17%
LMI نہیں	7,434	\$535,741,899	20%	20%
رپورٹ شدہ نہیں	4,750	\$336,348,500	12%	12%
کل	38,085	\$2,727,192,045	100%	100%

d۔ سیلاب سے انشورینس کے بغیر سیلابی میدان میں رہائش پذیر مالکان IA FEMA کے درخواست گزاران کی تعداد جو نامکمل ضرورت کو ظاہر کرتی ہیں ان کا مجموعہ 132,877 بنتا ہے۔ سیلابی میدان میں بغیر سیلابی انشورینس کے ساتھ رہائش پذیر مالکان کی کل تعداد کا مجموعہ 13,299 (10 فیصد) بنتا ہے۔ وہ جو LMI نہیں ہیں ان کی کل تعداد (36) 4,723 (فیصد) ہے جہاں (51) 6,775 (فیصد) LMI کیٹگری میں موجود ہیں۔

فیڈرل رجسٹر جلد 83، نمبر 9 فروری 2018 میں مطلوب طور پر، اگر مشترکہ گھریلو آمدن علاقے کی اوسط آمدن (AMI) یا قومی اوسط سے 120 فیصد زیادہ ہے، پراپرٹی آف آتے وقت سیلابی میدان میں موجود تھی، اور پراپرٹی کے مالک نے تباہ شدہ پراپرٹی پر سیلابی انشورینس کو برقرار نہیں رکھا، حتیٰ کہ اگر پراپرٹی کے مالک کے لیے ایسی انشورینس کا حصول اور برقرار رکھنا لازم نہ ہو تو وصول کنندگان کے لیے گھر کی بحالی یا تعمیر نو کے لیے CDBG-DR معاونت کی فراہمی ممنوع ہے۔

ذیل کا جدول آمدن کی کیٹگری کے مطابق انشورینس کے بغیر سیلابی میدان میں رہائش پذیر مالکان کا خاکہ فراہم کرتا ہے تاکہ اس ضمن میں تعین کاری کی جا سکے۔ تاہم، یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ 120 فیصد AMI کے لیے آمدن کی حدود اس ایکشن پلان کو بناتے وقت شناخت نہیں کی گئی تھیں اور یہ فنڈز کے ممکنہ ذیلی وصول کنندگان کی جانب سے ان کے مقامی ضروریات کے جائزوں کے بعد بنائی جائیں گی۔

جدول 13۔ آمدن کی کیٹگری کے مطابق سیلابی انشورینس کے بغیر سیلابی میدان میں مالکان

آمدن کی کیٹگری	شمار	گنتی کا %
0-30%	3,268	25%
31-50%	1,844	14%
51-80%	1,663	13%
LMI نہیں	4,723	36%
رپورٹ شدہ نہیں	1,801	14%
کل	13,299	100%

H. انفراسٹرکچر پر اثر

ٹیکساس کے خلیجی ساحل پر انفراسٹرکچر طوفان ہاروے سے متاثر ہوا۔ سڑکوں، پلوں، ساحلی کنارے کے سیکشنز، اور بہت سے دیگر انفراسٹرکچر سسٹمز جن کا ابھی تک تعین ہونا باقی ہے ان کے لیے یہ واقعہ تباہی کا باعث بنا۔

1. ٹیکساس کی تعمیر نو کے لیے گورنر کا کمیشن

گورنر گریگ ایبٹ نے آفت سے متاثرہ تمام علاقوں میں پبلک انفراسٹرکچر کی موثر اور فوری بحالی کے لیے طوفان ہاروے کے نتیجے کے بعد ٹیکساس کی تعمیر نو کے لیے گورنر کا کمیشن تشکیل دیا۔ 7 ستمبر 2017 کو گورنر کے باضابطہ

اعلان میں مذکور طور پر، کمیشن کی تشکیل کے لیے، طوفان ہاروے سے متاثرہ کمیونٹیز میں کام کرنے والے اور رہائش پذیر افراد اور ٹیکساس کی معیشت کے لیے آفت سے متاثرہ علاقے میں تباہ شدہ پبلک انفراسٹرکچر کی موثر بحالی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ کمیشن تعمیر نو کے لیے ضروریات کی شناخت اور جائزے اور تعمیر نو کی کوشش کے لیے دستیاب وفاقی اور ریاستی ذرائع کو متحرک کرنے کے لیے مقامی حکومت کے اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کی اعانت کرے گا۔ آفت کے ردعمل سے متعلقہ معاملات پر کمیشن مقامی حکومتوں اور ریاست کے مفادات کی اعانت کرے گا اور تعمیر نو کے عمل کے دوران مقامی حکومتی



ذرائع: HOU ضلعی Twitter فیڈ – Aug 28, 2017
<https://twitter.com/TxDOTHoustonPIO>

اداروں اور غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے مہارت اور معاونت فراہم کرے گا۔²³


"31 اکتوبر 2017 کی درخواست برائے حساس انفراسٹرکچر کے پراجیکٹس کی وفاقی معاونت" میں ریاستی اور مقامی سطحوں پر شناخت کردہ پراجیکٹس میں \$61 بلین رپورٹ کیے گئے۔ اس رقم میں حالیہ FEMA اخراجات یا CDBG-DR رہائشی تفویض کاریاں شامل نہیں ہیں۔ \$61 بلین کی رقم ستمبر اور اکتوبر میں متاثرہ کمیونٹیز جنہوں نے اپنی ضروریات کی شناخت اور ترجیح کردہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کی گئی۔ جیسے جیسے مزید معلومات دستیاب ہو گی اس رقم میں اضافہ متوقع ہے۔

²³ ٹیکساس کی تعمیر نو: ٹیکساس کی تعمیر نو کے لیے گورنر کا کمیشن۔ "باضابطہ اعلان"۔ ویب پیج کا 10 جنوری 2018 کو تجزیہ کیا گیا۔
<https://www.rebuildtexas.today/proclamation/>

شناخت کردہ پراجیکٹس کی اقسام میں سڑکیں، پل، سکولز، حکومتی بلڈنگز، عوامی سہولیات، نیز ساحلی انفراسٹرکچر، گھر، کاروبار، حساس سہولیات، اور قومی اثاثے جیسے پیٹروکیمیکل کمپلیکسز کی بحالی اور تخفیف کے پراجیکٹس شامل ہیں۔ 60 فیصد سے زائد شناخت کردہ پراجیکٹس سیلاب کو کنٹرول کرنے کے پراجیکٹس تھے۔²⁴

2. ٹیکساس کے ساحلی علاقے کی بحالی کا مطالعہ

سابقہ CDBG-DR فنڈز کے ساتھ، GLO نے متعدد کاؤنٹی پراجیکٹ کے ساحلی علاقے جو کہ مستقبل میں طوفانی واقعات کے لیے انتہائی زد پذیر ہوں گے ان کی حدود کے اندر حساس انفراسٹرکچر کی شناخت کے لیے ٹیکساس کے ساحلی علاقے کی بحالی کے مطالعے کا اہتمام کیا۔ اس مطالعے کے دوران، خطرناک سمجھی جانے والی سائٹس کی شناخت کی گئی اور غیر محفوظ انفراسٹرکچر کے ممکنہ نقصان میں تخفیف کے لیے نئے پراجیکٹس تجویز کیے گئے۔ متوقع طور پر اس میں سے متعدد سائٹس طوفان باروے سے متاثر ہوئیں، لیکن کس حد تک اس کا تعین ہونا باقی ہے۔ اس مطالعے میں شناخت کردہ بہتریوں کا عملی حل فراہم کیا جانا چاہیے جسے کمیونٹیز مرمتی اور تخفیف کے لیے فوری استعمال کر سکیں۔ اس مطالعے میں ساحلی علاقے میں 2,256 پراجیکٹس کی شناخت کی گئی۔²⁵



نمونہ 26: ٹیکساس کے ساحلی علاقے کی بحالی کی مطالعاتی جگہ

²⁴ Ibid. درخواست برائے حساس انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے وفاقی معاونت۔" ویب پیج/PDF تک 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ <https://www.documentcloud.org/documents/4164748-Rebuild-Texas-REQUEST-FOR-FEDERAL-ASSISTANCE.html>

²⁵ ٹیکساس جنرل لینڈ آفس۔ "ٹیکساس ساحلی علاقے کی بحالی کا مطالعہ، حتمی رپورٹ۔" ویب پیج/PDF تک 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ <http://www.glo.texas.gov/coastal-grants/documents/grant-project/texas-coastal-resiliency-study.pdf>

ٹیکساس جنرل لینڈ آفس ٹیکساس کی 367 میل طویل تمام ساحلوں کے لیے بھی ذمہ دار ہے۔ 2105 میں GLO نے مقامی، ریاستی اور وفاقی وسائل کو ٹیکساس کے ساحل کو محفوظ بنانے کے آغاز کی ترجیحی کوشش کو یکجا کرنے کے لیے طوفان کی تیاری اور منصوبہ بندی کے ابتدائیے کا آغاز کیا۔ اس ابتدائیے میں ساحلوں کے لیے متعدد مطالعات شامل ہیں جیسے: ٹیکساس ریاستی بحالی کا ماسٹر پلان، ساحلی ٹیکساس کے تحفظ اور بحالی کے لیے فیزیبلٹی، طوفان کو بڑھنے سے روکنے کا مطالعہ اور ٹیکساس کی علاقائی رسوب کا مطالعہ۔

3. FEMA عوامی معاونت


متاثرہ علاقے کا سائز وسیع ہونے اور بحالی کی مختلف ضروری اقسام ہونے کی وجہ سے، FEMA عوامی معاونت (PA) کا ڈیٹا انفراسٹرکچر کی مخصوص ضرورت کا تعین کرنے اور ریاست بھر میں انفراسٹرکچر کی ضروریات کے ضمن میں مشاورت کے آغاز کے لیے بھی پیمائش کے طور پر کام کرنے کے لیے دستیاب بہترین ڈیٹا کا سیٹ ہے۔ ہر اہل ادارہ کے اپنی پراجیکٹ شیٹس کی ارسالگی کے متعدد مراحل ہوتے ہیں اور مستقل کام کے لیے تخمینے اگلے چند مہینوں کے لیے مسلسل آتا رہے گا۔ اس ایکشن پلان کے لیے، ڈیٹا کی محدود دستیابی کی وجہ سے، رہائشی نامکمل ضروریات کو ترجیح دی گئی ہے۔

لاگت کی لگ بھگ رقم کے ساتھ مربوط وفاق کی لاگت کے 90 فیصد اشتراک کی وجہ سے، ان مقامات کے لیے PA انفراسٹرکچر کی کل نامکمل ضرورت کا تخمینہ کردہ لاگت کی رقم کے بقیہ 10 فیصد جمع لگ بھگ لاگت کا 15 فیصد کا بطور بحالی کے ضارب حساب کیا جائے گا۔ 1 فروری 2018 کو FEMA کی جانب سے PA کا وصول کردہ ڈیٹا نامکمل ضرورت کا حساب کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ ذیل کا ڈیٹا 1 فروری 2018 تک ہر PA کیٹگری کے لیے کل لاگتوں اور کل ضرورت کا اعلیٰ سطحی تخمینہ فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ دکھایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ کل ضرورت کی حامل سڑکیں اور پل، اور یوٹیلیٹیز 49 کاؤنٹیز کے لیے \$6.8 بلین سے زائد کی کل PA ضرورت کو ظاہر کر رہی ہیں۔

جدول 14: PA کیٹگری کے مطابق کل لاگت اور ضرورت


PA کیٹگری (49 کاؤنٹیز)	تقریباً PA لاگت	10% مقامی مماثل	تخمینہ کردہ لاگت پر 15% بحالی	کل ضرورت (مقامی مماثل + بحالی)
A - کوڑے کی صفائی	\$355,170,320	\$35,517,032	\$53,275,548	\$88,792,580
B - ایمرجنسی حفاظتی اقدامات	\$646,628,623	\$64,662,862	\$96,994,293	\$161,657,155
C - سڑکیں اور پل	\$13,301,673,492	\$1,330,167,349	\$1,995,251,023	\$3,325,418,373
D - پانی کنٹرول کرنے کی سہولیات	\$121,782,240	\$12,178,224	\$18,267,336	\$30,445,560
E - عمارات اور آلات	\$1,191,075,704	\$119,107,570	\$178,661,355	\$297,768,926
F - یوٹیلیٹیز	\$11,452,900,124	\$1,145,290,012	\$1,717,935,018	\$2,863,225,031
G - پارکس، تفریحی سہولیات، اور دیگر اشیاء	\$166,023,764	\$16,602,376	\$24,903,564	\$41,505,941
Z - ڈائریکٹ انتظامی اخراجات	\$7,278,872	\$727,887	\$1,091,830	\$1,819,718
کل مجموعہ	\$27,242,533,143	\$2,724,253,314	\$4,086,379,971	\$6,810,633,285

ذیل میں دیا گیا نقشہ ہر کاؤنٹی کی ابتدائی PA ضرورت کی اعلیٰ سطحی جھلک پیش کرتا ہے۔ ہیرس کاؤنٹی \$6.4 بلین ڈالرز سے زائد کے مجموعے، یا تمام 49 کاؤنٹیز کے لیے کل ضرورت کا 95% سے زائد کے ساتھ سب سے زیادہ ضرورت ظاہر کرتی ہے۔ اسے متعدد عناصر بشمول ہیرس کاؤنٹی میں بنیادی طور پر ہوسٹن شہر میں سڑکوں اور پلوں پر ہونے والے زیادہ مقدار میں ہونے والے اثر کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ PA ضرورت کی حامل دیگر کاؤنٹیز جیفرسن (\$63 ملین)، فورٹ بینڈ (\$35 ملین)، اور ارنساس (\$22 ملین) ہیں۔



نمونہ 27: کاؤنٹی کے مطابق درکار کل عوامی معاونت

جیسا کہ اوپر IA سیکشن میں مذکور ہے کہ جب بحالی کے لیے کمیونٹی کی صلاحیت کو دیکھا جا رہا ہو تو فی کس ضرورت ایک اچھا اشاریہ ہے۔ ذیل کا نقشہ بلند ترین فی کس PA ضرورت کی حامل کاؤنٹیز میں ہیرس (\$1,412، ارنساس (\$1,296) اور ریفریوجیو (\$1,100) کی نشاندہی کرتا ہے۔ بقیہ تمام کاؤنٹیز \$317 سے شروع ہونے والی واضح طور پر کم ترین فی کس PA کی ضروریات ظاہر کرتی ہیں۔



نمونہ 28: کاؤنٹی کی کل PA فی کس نامکمل ضرورت

ریاست ٹیکساس میں متعدد ایجنسیز نے بھی طوفان ہاروے سے منسلک بحالی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ GLO نے تقریباً \$1.62 بلین PA لاگت کا مجموعہ حاصل کیا۔ اس تخمینہ شدہ لاگت (\$1.6 بلین) کی اکثریت جزوی مرمتی اور پناہ کے لیے ضروری پاور (PREPS) پروگرام کے ایمرجنسی کے حفاظتی اقدام کے حوالے سے وفاقی اور ریاستی شراکت کے ضمن میں آتی ہے۔ یہ پروگرام آفت سے تباہ شدہ سنگل فیملی مالکان کے زیر قبضہ رہائش گاہوں میں پاور کی بحالی اور ہنگامی کام سر انجام دیتا ہے۔ PREPS عارضی مرمتی فراہم کرتا ہے اور ان کی جانب سے گھروں کی مستقل مرمتی مکمل کرنے تک گھر کے مالکان کو اپنے گھروں اور کمیونٹیز میں رہنے کی اجازت دیتا ہے۔

جدول 15: ایجنسی کے مطابق ہاروے کی بحالی کی لاگت کا تخمینہ

تقریباً لاگت	ایجنسی
\$3,014,000.00	زیریں دریائے کولریڈو اتھارٹی (LCRA)
\$400,454.00	دفتر برائے اٹارنی جنرل
\$182,957.28	ٹیکساس A&M AgriLife توسیعی سروس
\$3,842,594.53	ٹیکساس A&M انجینئرنگ توسیعی سروس
\$3,654,800.00	ٹیکساس A&M جنگلات کی سروس (TX A&M جنگلات کی سروس)
\$128,013.39	ٹیکساس A&M یونیورسٹی (ویٹرنری ایمرجنسی ٹیم)
\$100,000.00	ٹیکساس شرابی مشروبات کا کمیشن
\$440,255.02	ٹیکساس جانور کی صحت کا کمیشن
\$11,517,803.72	ٹیکساس محکمہ برائے پبلک سیفٹی
\$8,153,706.07	ٹیکساس ریاستی محکمہ برائے صحت کی خدمات
\$232,160,907.24	ٹیکساس ڈویژن برائے ایمرجنسی مینیجمنٹ
\$33,697,672.14	ٹیکساس صحت و انسانی خدمات کا کمیشن
\$2,823,704.00	ٹیکساس تاریخی کمیشن
\$1,467,160.00	ٹیکساس محکمہ برائے پارکس اور جنگلی حیات
\$6,517,040.00	یونیورسٹی آف ٹیکساس بمقام آسٹن
\$8,800,000.00	ٹیکساس محکمہ برائے ذرائع نقل و حمل
\$1,623,071,772.09	ٹیکساس جنرل لینڈ آفس
\$75,557,954.84	ٹیکساس ملٹری ڈیپارٹمنٹ
\$199,772.00	ٹیکساس یوتھ کمیشن (ٹیکساس محکمہ برائے نابالغان کے لیے انصاف)
\$2,015,730,566.32	کل مجموعہ

اگرچہ اس وقت اس کا تعین کرنا ناممکن ہے، مستقبل کی پراپرٹی کی قدر اور طوفان ہاروے کے پراپرٹی کی قدروں پر مجموعی اثر کو طویل المدتی کوشش کے لیے زیر غور لایا جانا چاہیے، جس کا کمیونٹیز اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے بحالی کے لیے سامنا کریں گی۔ اس اثناء میں جب رہائش کی نامکمل ضروریات کا احاطہ کیا جا رہا ہو، انفراسٹرکچر اور دیگر غیر رہائشی سیکٹرز بشمول طوفان ہاروے کی وجہ سے مستقبل کے ٹیکس ریونیو کے خسارے کی صورت میں تب بھی واضح طور پر نامکمل ضرورت برقرار رہے گی۔ معیشت یا انفراسٹرکچر کی سرگرمیوں کی بحالی کے ساتھ منسلکہ پراجیکٹس انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ علاقوں میں رہائش گاہوں کی طویل المدتی بحالی اپنا کردار ادا کریں گے نیز متاثرہ جگہوں اور اس سے بڑھ کر جاری نموبذیری کو یقینی بنائیں گے۔ اوپر دیا گیا ڈیٹا اور عناصر ریاست کے لیے مقامی انفراسٹرکچر کا پروگرام تشکیل دینے کا باعث بنے، جو طویل المدتی بحالی کے جامع پروگرام کے حصے کے طور پر، مقامی انفراسٹرکچر کی بہتری اور مرمتی اور تخفیف کے لیے کوششیں کے ضمن میں کمیونٹی کی بحالی اور رہائشی معاونت کے لیے اہم عنصر ہیں۔

I- معاشی اثر

1- روزگار

a- ریاست کے اعداد و شمار

اگست 2017 تک ٹیکساس افرادی قوت کے کمیشن کی جانب سے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں ملازمتوں کی تعداد 12,035,300 سے بڑھ کر 12,328,400 ہو گئی۔ یہ اگست 2016 سے سال بہ سال 2.4 فیصد، نئی ملازمتوں میں کل 293,100 اضافہ ہے۔ اس کے علاوہ اگست میں ریاست بھر میں بے روزگاری کی شرح 2016 4.9 فیصد سے 4.5 فیصد تک کم ہو گئی۔ ٹیکساس کی طرح ابھرتی ہوئی معیشت میں، طویل المدتی ملازمت کی بڑھوتری اور بے روزگاری میں اضافہ طوفان ہاروے سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن کس حد تک اس کا تعین کرنا ناممکن ہے۔ اکتوبر 2017 کے اعداد و شمار بے روزگاری کی شرح 3.5 فیصد اور ملازمت کی تعداد میں اگست میں 12,328,400 سے اکتوبر 2017 میں 12,922,084 تک اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔

b. کاؤنٹی کی سطح

49 اہل کاؤنٹیز میں سے تقریباً تمام ریاست کے رجحان کی پیروی کرتی ہیں۔ تاہم یہاں دو کاؤنٹیز ایسی ہیں جہاں ٹیکساس افرادی قوت کے کمیشن کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق طوفان ہاروے کے بعد بے روزگاری کی شرح بلند تر ہے۔ ارنساس شہر میں بے روزگاری کی شرح اگست 2017 کے 5.5 فیصد سے اکتوبر 2017 میں 8 فیصد تک بڑھ گئی، اور ریفریو جیو کاؤنٹی کی بے روزگاری کی شرح 5.7 سے 6.2 فیصد تک بڑھ گئی۔ اگرچہ بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے، لیکن دونوں کاؤنٹیز میں ملازمت کی تعداد میں معمولی اضافہ ہوا ہے۔ ارنساس کاؤنٹی میں 9,568 (0.8 سے 9,645 فیصد) اور ریفریو جیو کاؤنٹی میں 2,809 (0.9 سے 2,837 فیصد) اضافہ ہوا۔

c. آفت میں بے روزگاری کی معاونت

آفت میں بے روزگاری کی معاونت کا پروگرام FEMA اور ٹیکساس افرادی قوت کے کمیشن کے زیر انتظام ہے، جو طوفان ہاروے کے براہ راست نتیجے میں ملازمت کھونے یا مزید کام نہ کرنے والے افراد کے لیے بے روزگاری کے فوائد فراہم کرتا ہے۔ درخواستوں کے لیے ڈیڈ لائن 13 نومبر 2017 تھی۔ اس پروگرام کے ذریعے، کل 24,758 دعوے موصول ہوئے اور 12,997 افراد کی مجموعی طور پر \$11,201,909 کی معاونت کی فراہمی کے لیے منظوری دی گئی۔

2. شمال بزنس ایڈمنسٹریشن (SBA) آفت میں کاروباری قرضے

SBA کاروباری اداروں کی زیر ملکیت آفت سے تباہ شدہ پراپرٹی کی تبدیلی یا مرمتی کے لیے، بشمول رئیل اسٹیٹ، انویٹریز، سپلائیز، مشینری، آلات اور فعال سرمایے کی صورت میں معمول کی کاروائی شروع ہونے تک آفت میں کاروباری قرضے اور آفت میں معاشی نقصان کے لیے قرضے (EDIL) پیش کرتا ہے۔ تمام اقسام کے کاروباری ادارے اہل ہیں۔ نجی، غیر منافع بخش تنظیمیں جیسے خیراتی ادارے، چرچ اور نجی یونیورسٹیز بھی اہل ہیں۔ قانون ان کاروباری قرضوں کو \$2,000,000 تک محدود کرتا ہے، اور یہ رقم تصدیق شدہ غیر بیمہ شدہ آفتی نقصان سے تجاوز نہیں کر سکتی۔²⁶

رئیل اسٹیٹ کے تصدیق شدہ نقصان کا مجموعہ \$4.17 سے زائد بنتا ہے اور کل تصدیق شدہ کاروباری نقصان کی مالیت \$454.78 بنتی ہے۔ طوفان ہاروے کے لیے کل تصدیق شدہ مجموعی کاروباری نقصان \$4.62 سے زائد ہے۔ SBA نے 7 دسمبر 2017 تک \$579 سے زائد کے کاروباری قرضے منظور کر دیئے ہیں۔ کاروباری اور EIDL قرضوں کی رقم کی رو سے، نقصان کی بقیہ رقم \$4.04 بلین سے زائد ہے۔ اسے طوفان ہاروے سے متاثرہ

²⁶ امریکی شمال بزنس ایڈمنسٹریشن حقائق نامہ۔ 7 نومبر 2017 "آفت کے لیے قرضے، ٹیکساس اعلان #15274 اور #15275۔"

کاروباری اداروں کے لیے ابتدائی نامکمل ضرورت کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ کاؤنٹی اور COG کے مطابق کل قرضے کی تقسیم ذیل کے جدول میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔

اس رو سے ریاست کو بنیادی طور پر اپنی نامکمل ہاؤسنگ بحالی کی ضروریات کو زیر غور اور زیر احاطہ لانا چاہیے، اور یہ ظاہر کرنا چاہیے اس کی معاشی نمو کی سرگرمیاں انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ علاقوں میں ہاؤسنگ کی طویل المدتی بحالی کے لیے کیسے شراکت کریں گی، ریاست نے معاش نمو کا پروگرام تشکیل دیا ہے۔ یہ پروگرام معاشی نمو کے لیے فنڈز کی صورت میں \$100 ملین مختص کرے گا۔

جدول 16: SBA کی جانب سے منظور کردہ کل کاروباری قرضے

کاروبار/ EIDL قرضے	COG	کاؤنٹی
\$ 50,000	BVCOG	برلینسن
\$ 50,000		کل BVCOG
\$ 40,000	CAPCOG	باسٹروپ
\$ 547,900	CAPCOG	فیٹے
\$ 587,900		کل CAPCOG
\$ 58,461,900	CBCOG	ارنساس
\$ 4,801,000	CBCOG	بی
\$ 43,300	CBCOG	کلیرنگ
\$ 20,309,300	CBCOG	نوسیس
\$ 1,710,900	CBCOG	ریفوجیو
\$ 14,822,900	CBCOG	سان پیٹریشویو
\$ 100,149,300		کل CBCOG
\$ 50,000	DETCOG	نیوٹن
\$ 631,600	DETCOG	پولک
\$ 266,400	DETCOG	سان جاکنتو
\$ 948,000		کل DETCOG
\$ 2,806,400	GCRPC	کالہون
\$ 99,100	GCRPC	گولیاڈ
\$ 75,000	GCRPC	گونزالیز
\$ 2,506,100	GCRPC	جیکسن
\$ 18,800	GCRPC	لاواکا
\$ 13,550,100	GCRPC	وکتوریا
\$ 19,055,500		کل GCRPC
\$ 248,900	H-GAC	آسٹن
\$ 7,625,900	H-GAC	بریزوریا
\$ 13,355,600	H-GAC	چیمبرز
\$ 1,183,600	H-GAC	کولریڈو
\$ 22,460,200	H-GAC	فورٹ بینڈ
\$ 32,364,700	H-GAC	گالویسٹن
\$ 288,656,700	H-GAC	بیرس
\$ 3,049,600	H-GAC	لیبرٹی
\$ 1,530,100	H-GAC	میٹا گورڈا

کاروبار/ EIDL قرضے	COG	کاؤنٹی
\$ 10,625,200	H-GAC	منٹگمری
\$ 120,600	H-GAC	واکر
\$ 428,100	H-GAC	ویلر
\$ 3,205,600	H-GAC	وہارٹن
\$ 384,854,800		H-GAC کل
\$ 7,975,300	SETRPC	ہارڈن
\$ 31,350,100	SETRPC	جیفرسن
\$ 34,368,900	SETRPC	اورنج
\$ 73,694,300		SETRPC کل
\$ 579,389,800		کل مجموعہ

ذیل کا جدول وصول کردہ 11,701 کاروباری درخواستوں کے لیے درخواست کی حیثیت کے حوالے سے 1 جنوری 2018 تک کی SBA کی جانب سے تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ مادی نقصانات کے لیے درخواست کی مدت 30 نومبر 2017 کو بند ہونا شیڈول تھی، تاہم SBA 30 نومبر کی ڈیڈ لائن کے 60 دنوں کے اندر درخواست گزار کی جانب سے جواز کا تقاضہ کیے بغیر پوسٹ مارک شدہ (یا برقیاتی طور پر ارسال کردہ) درخواستیں وصول کر رہا ہے۔ چھوٹے کاروباری ادارے اور زیادہ تر غیر منافع بخش تنظیموں کے لیے معاشی نقصان (فعال سرمایہ) کے ضمن میں اپلائی کرنے کے لیے ڈیڈ لائن 25 مئی 2018 ہے۔

جدول 17: SBA درخواست گزار کی تقسیم

درخواست کی قسم	رقم	فیصد
کل کاروباری درخواستیں	11,701	100.00%
کاروائی کردہ درخواستیں	10,502	89.75%
زیر عمل درخواستیں	1,199	10.25%
مسترد کردہ درخواستیں	5,030	47.90%
واپس لی گئی درخواستیں	2,670	25.42%
منظور کردہ درخواستیں	2,802	26.68%

3. کمرشل پراپرٹی انشورینس

ٹیکساس ڈیپارٹمنٹ آف انشورینس (TDI) کی 23 جنوری 2018 میں ٹیکساس سینٹ کاروبار و تجارت کی کمیٹی کو دی گئی پریزنٹیشن میں انشورینس کمپنیوں کی جانب سے اکٹھے کردہ ڈیٹا، طوفان ہاروے کے مالیاتی اثرات اور دعووں کی ہینڈلنگ کی نگرانی کے حوالے سے بنایا گیا۔

TDI ڈیٹا کی درخواست میں کمپنیوں کے لیے درج ذیل رپورٹ کرنا درکار ہے: رپورٹ کردہ دعووں کی تعداد، ادائیگی کے حامل بند کردہ دعووں کی تعداد (ادائیگی کردہ دعوے)، ادائیگی کے بغیر بند کردہ دعووں کی تعداد، دوبارہ کھولے گئے دعووں کی تعداد، کل نقصانات کے حامل دعووں کی تعداد، ادا کردہ نقصانات کی کل رقم، اور محفوظ شدہ دعووں کی کل رقم۔ ڈیٹا کی درخواست یہ تقاضہ کرتی ہے کہ کمپنیاں درج ذیل اقسام کی انشورینس کے لیے علیحدہ سے ڈیٹا رپورٹ کریں: گھریلو مالکان، رہائشی مکان، موبائل گھریلو مالکان، فارم کے مالکان، کاروبار کے مالکان، کاروباری پراپرٹی کی کاروباری مداخلت کا حصہ، تمام دیگر کاروباری پراپرٹی، ذاتی گاڑی، کاروباری

گاڑی، وفاقی سیلابی - اپنا خود تحریر کریں (NFIP کی جانب سے براہ راست تحریر کردہ پالیسیز شامل نہیں ہیں)،
نجی سیلاب، اور دیگر تمام انشورینس کی اقسام۔

کمرشل پراپرٹی ٹیکس میں کاروباری عمارت اور ان کے مشمولات کی آگ، طوفانی جھکڑ اور دیگر خطرات کے
لیے کوریج شامل ہیں۔ اس ڈیٹا میں کاروباری مالکان اور کاروباری مداخلت شامل نہیں ہیں۔ کمرشل پراپرٹی پالیسیز
عمومی طور پر سیلاب یا بلند ہوتے پانیوں کے لیے کوریج فراہم نہیں کرتیں۔


ڈیٹا کی درخواست میں گورنر ایبٹ کے 28 اگست 2017 کے آفت کے باضابطہ اعلان میں 58 کاؤنٹیز علاوہ ولیم سن،
ٹریوس، ہیز، اور ہیڈالگو کاؤنٹیز شامل ہیں۔ میلان اور سان آگسٹائن کاؤنٹیز، جو گورنر ایبٹ نے 14 ستمبر 2017 کو
آفت کے اعلان میں شامل کیں، وہ اس میں شامل نہیں تھیں۔ نمونہ 11: طوفان ہاروے کی ڈیٹا کال برائے کاؤنٹیز -
علاقائی نقشہ، یہ ظاہر کرتا ہے کہ TDI کس طرح کاؤنٹیز کو علاقے کے مطابق گروپ کرتا ہے۔

درج ذیل چارٹ ان دعووں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے جو ادا کیے گئے (نقصان کی ادائیگی کے ساتھ بند کردہ)، نقصان
کی ادائیگی کے بغیر بند کردہ دعوے، کھلے دعوے، اور علاقے کے مطابق کاروباری پراپرٹی کے لیے دوبارہ کھولے
گئے۔

وہ دعویٰ جو کھلا ہو وہ جزوی ادائیگیوں، جیسے رہائش کے اضافی اخراجات یا کاروباری مداخلت نیز نقصان کی
مدت میں ادائیگیوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔


ادائیگی کے بغیر دعویٰ میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں: نقصان کٹوتیوں سے زائد ہو، نقصان ایسے خطرے کی
وجہ سے ہوا جو پالیسی کے تحت احاطہ کردہ نہ ہو، نقصان ہوتے وقت پالیسی بولڈر کی پالیسی موثر نہ ہو، یا دعویٰ
دوبرا دعویٰ ہو۔

رپورٹ کردہ دعوؤں کی تعداد



نمونہ 29: تصفیے کی حیثیت اور علاقے کے مطابق کمرشل پراپرٹی کے دعوؤں کی تعداد

ساحلی خمدار علاقے اور بوسٹن کے علاقوں میں زیادہ تر کمرشل پراپرٹی کے نقصانات ہوئے۔



نمونہ 30: کمرشل پراپرٹی کے نقصانات اور علاقے کے مطابق نقصانات کی رقم

4- زراعت پر اثر

ٹیکساس کی ریاست بھر میں پھیلی ہوئی مختلف اقسام کی زراعتی انڈسٹری موجود ہے۔ زراعت ملازمتیں، خوراک کے ذرائع، تجارت، اور اشیاء کی تقسیم میں استعمال ہونے والی پورٹ کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس انڈسٹری کو طوفان ہاروے کی بارشوں اور ہواؤں کے باعث شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔



1 نومبر 2017 تک، A&M AgriLife توسیعی سروس اکانومسٹ کے مطابق طوفان ہاروے فصل اور لائیوسٹاک کے حوالے سے \$200 ملین سے زائد کے نقصانات کا باعث بنا۔²⁷ کموٹیٹی کے مطابق تخمینہ کردہ نقصانات میں لائیو

ذرائع: AgriLife ایکسٹینشن Twitter فیڈ، <https://twitter.com/txextension>

سٹاک \$93 ملین؛ کپاس کی فصلوں میں \$100 ملین؛ اور چاول اور سویا بین کی صنعت میں \$8 ملین کے نقصانات شامل ہیں۔ انڈسٹری کے انفراسٹرکچر جیسے چار دیواری جس کی مرمتی یا تبدیلی کی جانی چاہیے اور خشک چارے میں تقریباً 200,000 بیلز کا خسارہ ہوا وہ لائیو سٹاک کے اعداد و شمار میں شامل ہیں،²⁸ اس میں مردہ لائیو سٹاک کی تخمینہ کردہ تعداد شامل نہیں ہے۔ یہ اعداد و شمار ہزاروں کی تعداد میں تخمینہ کردہ ہیں۔ اس رپورٹ میں ماہی گیری کی صنعت کو ہونے والے نقصانات بشمول ماہی گیری کی سرگرمی اور کشتیوں اور آلات کو طوفان سے متعلقہ نقصانات شامل نہیں ہیں۔ یہ تخمینہ بہار 2018 میں جھینگے کا سیزن ختم ہونے تک دستیاب نہیں ہو گا۔²⁹ یہ دستیاب نمبرز زرعی صنعت میں جاری نقصان کا سبب بنے گی۔

5. سیاحت

ٹیکساس کے ساحل پر بہت سی کمیونٹیز ہیں جن کا دارومدار سیاحت سے ہونے والی آمدن اور ملازمت پر ہے۔ گورنر کی 2017 کی رپورٹ، ٹیکساس میں سیاحت کے معاشی اثرات، کے مطابق، 2016 میں براہ راست کل سیاحتی اخراجات \$69.1 بلین تھے۔

اسی طرح ساحلی علاقے میں موجود متاثرہ کاؤنٹیز طویل عرصے سے قائم اور کثرت سے وزٹ کردہ سیاحتی مقامات ہیں۔ ارنساس کاؤنٹی میں 11.6 فیصد ملازمت اور گالویسٹن کاؤنٹی میں 6.7 فیصد ملازمتیں براہ راست سیاحت اور

²⁷ ٹیکساس A&M Agrilife ایکسٹینشن۔ "ٹیکساس میں طوفان ہاروے سے ہونے والے زراعت کے نقصانات کا تخمینہ \$200 ملین سے زائد لگایا گیا ہے۔" ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ <https://today.agrilife.org/2017/10/27/texas-agricultural-losses-hurricane-harvey-estimated-200-million/>

²⁸ ٹیکساس فارم بیورو۔ "طوفان ہاروے سے \$200 ملین ڈالر کے نقصانات ہوئے۔" ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ <http://texasfarmbureau.org/hurricane-harvey-ag-losses-top-200-million/>

²⁹ دی ٹیکساس آبیروور۔ "نئے تخمینے کے مطابق ہاروے سے زراعت کے \$200 ملین کے نقصانات، ارما کا دسواں حصہ۔" ویب پیج پر 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ <https://www.texasobserver.org/agriculture-losses-estimated-200-million-harvey/>

سفر کے ساتھ مربوط ہیں۔³⁰ ریٹیل، میزبانی، اور تفریح وہ شعبے ہیں جو مقامی کمیونٹی نیز مجموعی طور پر ریاست میں ملازمت اور بزنس ٹیکس کے ریونیو میں مہیا کرتے ہیں۔ 2016 میں، ٹیکساس کے ساحلی علاقوں نے 3.4 ملین لوگوں کو ملازمتیں فراہم کی ہیں۔³¹

اگرچہ حالیہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، لیکن طوفان ہاروے کے براہ راست نتیجے کی وجہ سے سیاحتی انڈسٹری کا ریونیو خسارے کی توقع ہے۔ طوفان ہاروے کے وقت کی وجہ سے، وہ علاقے جن کا دارومدار سیاحت پر ہے وہاں لیبر ڈے 2017 کے موقع پر ریونیو میں کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ بحالی کے جاری عمل کی وجہ سے ان علاقوں کو بہار کے وقفے 2018 اور گرمیوں کے موسم 2018 میں بھی خسارے کا سامنا ہو گا۔ یہ اثرات سیاحوں کی جانب سے ٹیکساس کے ساحل پر واپس آنے تک مسلسل دیکھے جائیں گے۔ اگر سیاح کو اصل نقصان کے متعلق غلط فہمی ہو جائے تو یہ اثر طوالت پکڑ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ جگہیں جو آفت سے معمولی یا کوئی نقصان نہیں ہوا وہاں بھی عوامی رائے کی بنیاد پر سیاحت میں کمی کا امکان ہو گا۔

6. ٹیکساس کی معیشت

ٹیکساس میں پبلک اکاؤنٹس کے محاسب کے فروری 2018 کے سال کے نوٹس، "یاد کرنے کے لیے ایک طوفان: طوفان ہاروے اور ٹیکساس کی معیشت،" ٹیکساس کے محاسب کے تخمینے کے مطابق طوفان ہاروے سے ہونے والے کاروبار کی پیداواری میں خسارہ ریاست کی کل پیداوار (GSP) میں \$16.8 بلین کی کمی کا باعث بنا ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ بحالی کی کوششوں اور بڑھتی ہوئی تعمیراتی سرگرمی کے نتیجے میں GSP میں اضافہ حاصل کر لیا جائے گا۔ ٹیکساس کے محاسب نے طوفان کے بعد پہلے سال کے دوران طوفان ہاروے کے اثر کا GSP کی مد میں تین سالوں میں تقریباً \$800 ملین کے مجموعی اضافے کے ساتھ \$3.8 بلین کے خسارے کا تخمینہ لگایا ہے۔ ٹیکساس کے محاسب کے مطابق، طوفان ہاروے کے مکمل اثرات کو جاننے میں کئی سال درکار ہو سکتے ہیں۔³² مجموعی ضرورت لیکن حتمی اثر کی غیر یقینی کی بنیاد پر GLO معاشی احیاء نو کا پروگرام بنا رہا ہے جس کو مستقبل کی طوفان ہاروے کی تفویض کاریوں کے ذریعے سرمایہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔

³⁰ ٹیکساس سیاحت، گورنر کا دفتر، ٹیکساس معاشی ترقی و سیاحت۔ "ٹیکساس میں سیاحت کے معاشی اثرات۔" جولائی 2017۔ ویب پیج/PDF تک 10 جنوری 2018 کو رسائی کی گئی۔ https://travel.texas.gov/tti/media/PDFs/TXImp16p_1.pdf

Ibid.³¹

³² کساس پبلک اکاؤنٹس محاسب۔ "ناقابل فراموش طوفان: طوفان ہاروے اور ٹیکساس کی معیشت۔"

ویب پیج تک 18 فروری 2018 کو رسائی کی گئی۔

<https://comptroller.texas.gov/economy/fiscalnotes/2018/specialedition/index.php>

III. عمومی تقاضے

A. عوامی رہائش کی بحالی/تعمیر نو، کم قیمت رہائش اور معاونت کردہ رہائش کے دیگر فارمز

GLO آفات سے متاثرہ درج ذیل اقسام کی رہائش کی بحالی، تعمیر نو اور تبدیلی کی شناخت اور احاطہ کرے گا؛ عوامی رہائش (بشمول انتظامی دفاتر)، HUD کی معاونت کردہ رہائش، کم قیمت رہائش، McKinney-Vento بے گھر افراد کی مالی اعانت۔ بے گھر کے لیے فنڈ کردہ پناہ گاہیں اور رہائش گاہ، بشمول ہنگامی پناہ گاہیں اور بے گھر افراد کے لیے عبوری اور مستقل رہائش؛ اور نجی مارکیٹ کے پراجیکٹ پر مبنی معاونت کے وصول کنندہ یونٹس، یا کرایہ دار جو سیکشن 8 ہاؤسنگ چوائس واچر پروگرام میں شریک ہیں۔

تمام تجویز کردہ پراجیکٹس کا منظوری سے قبل GLO کی جانب سے مناسب رہائش کی مزید منظوری (AFFH) کے جائزے سے گزریں گے۔ ایسے جائزوں میں (1) مجوزہ پراجیکٹ کے علاقے کی ڈیموگرافی، (2) سماجی معاشی خصوصیات، (3) رہائشی تشکیل اور ضروریات، (4) تعلیمی، نقل و حمل، اور نگہداشت صحت کے مواقع، (5) ماحولیاتی خطرات یا خدشات، اور (6) AFFH کی تعین کاری کے لیے دیگر تمام عناصر کی تشخیصات شامل ہوں گی۔ درخواستوں میں یہ نمایاں ہونا چاہیے کہ پراجیکٹس ممکنہ طور پر علاقے میں نسلی، تہذیبی، اور کم آمدنی کے ارتکاز کو کم کرے اور/یا قدرتی خطرے سے متعلقہ اثرات کے ردعمل میں میں کم غربت، غیر اقلیتی علاقوں میں میں کم قیمت رہائش کو فروغ دے۔

GLO نگرانی، مینیجمنٹ اور رپورٹنگ کے مقاصد کے لیے تفویض کردہ CDBG-DR کے ساتھ منسلک انتظامی لاگتوں کے لیے تفویض کردہ کل 5% برقرار رکھے گا۔ بیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر میں انتظامی قسم کی سرگرمیوں کا تقاضہ کرنے والی رہائشی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک لاگتوں کے ضمن میں پروگرام کی لاگتوں کا صرف 2% تک الاؤنس کا استثنیٰ ہو گا۔ اضافی طور پر، بیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن رہائشی سرگرمیوں کے نفاذ سے براہ راست متعلقہ لاگتوں کے لیے پروگرام کی رقم کا 10% تک اور غیر رہائشی اور انفراسٹرکچر کی قسم کی سرگرمیوں کے لیے 6% تک خرچ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ایک دفعہ جب بیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن کی جانب سے شناخت ہو جائیں، تو انتظامی لاگتیں مابعد ایکشن پلان کے ترمیمی بجٹس میں مذکور کی جائیں گی۔ انجینئرنگ اور ڈیزائن کی سرگرمیاں کل پروجیکٹ کی رقم کے 15% تک محدود کر دی جائیں گی تاوقتیکہ خصوصی سروسز ضروری ہوں؛ GLO سے مشروط GLO، بیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر ہر متعلقہ فنڈز کے لیے پلاننگ کو 24 CFR 570.205 میں وضاحت کردہ طور پر پراجیکٹس کی تکمیل کے لیے لاگتوں کو 5% تک محدود کر دیں گے۔

B. زدپذیر آبادیوں کے لیے رہائش

GLO زد پذیر آبادیوں کے لیے رہائش کو فروغ دے گا، بشمول ان سرگرمیوں کی تفصیلات جو درج ذیل کا احاطہ کریں: عبوری رہائش، مستقل معاونتی رہائش، اور افراد اور خاندان جو بے گھر ہیں اور بے گھری کا خطرہ درپیش ہے ان کے لیے مستقل رہائش کی ضروریات؛ بچوں کے حامل کم آمدنی کے افراد اور خاندان (خاص طور پر وہ جن کی آمدن علاقے کی اوسط سے 30% نیچے ہو) کا بے گھر ہونے سے بچاؤ؛ ان افراد کی خصوصی ضروریات جو بے گھر نہیں ہیں لیکن انہیں معاونتی رہائش چاہیے (جیسے بزرگ، معذور افراد، الکحل یا دیگر منشیات کی نشہ آوری، HIV / AIDS کا شکار افراد اور ان کے خاندان، اور عوامی رہائشی کے مکین، جیسا کہ (24 CFR 91.315(e)) میں شناخت کیا گیا ہے۔

براہ راست رہائش کی معاونت سے متعلقہ پروگرامز کا انتظام کرنے والے GLO اور ذیلی وصول کنندگان ضروریات کے جائزے سر انجام دیں گے۔ مقامی ضروریات کا جائزہ اور HUD/FEMA ڈیموگرافک کا تجزیہ IA ڈیٹا ہر LMI اور

non-LMI اکنامک گروپ کے لیے فنڈنگ کا تناسب تجویز کرے گا۔ ضروریات کا جائزہ پیش کرنے کے لیے سرگرمیوں، ڈیمو گرافک کے لیے مرتکز شدہ نگرانی کی وصولی، اور خدمت کرنے کے لیے ہدفی علاقوں کا تعین کرے گا۔ ضروریات کے جائزے کو متاثرہ علاقوں میں نقصان کے یونٹس کی طرح یکساں آمدن کی بریکٹ کے اندر مقاصد کا تعین کرنا چاہیے۔ مقاصد سے انحراف کے لیے ذیلی وصول کنندہ کی پیش قدمی سے قبل GLO کی جانب سے منظوری دی جانی چاہیے۔

براہ راست ہاؤسنگ معاونت کے لیے متعلقہ پروگرامز کی نگرانی کرنے والے GLO اور ذیلی وصول کنندگان طے شدہ مارکیٹنگ پالیسیز کے ذریعے مثبت طور پر رہائش کے لیے وقف شدہ ہیں۔ GLO اور ذیلی وصول کنندگان HUD سرٹیفائیڈ ہاؤسنگ کی مشاورتی تنظیموں کے ساتھ مربوط ہوں گے۔ تصدیقی مارکیٹنگ کی کوششوں میں HUD کے ضابطوں پر مبنی تصدیقی مارکیٹنگ کا پلان شامل ہو گا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام نسلی، تہذیبی، قومی بنیاد، مذہبی، نسلی حیثیت، معذور، "خصوصی ضروریات" اور جنس کے گروپس سے اہل گھریلو مالکان تک کمیونیکیشن اور رسائی کی کوششیں پہنچیں۔

C. افراد اور/یا اداروں کی نقل مکانی

اس ایکشن پلان میں مذکورہ سرگرمیوں کی وجہ سے متاثرہ ہونے والے افراد اور/یا اداروں کی نقل مکانی کو کم کرنے کے لیے، GLO دیگر ریاستی ایجنسیز، مقامی حکومتوں، اور مقامی غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ نقل مکانی میں تخفیف کے لیے ہم آہنگی لائے گا۔ تاہم، اگر کوئی تجویز کردہ پراجیکٹس لوگوں کی نقل مکانی کا باعث بنتے ہیں، تو GLO اس بات کو یقینی بنائے گا کہ منتقلی کی مستقل معاونت اور ریئل پراپرٹی کے حصول کی پالیسیز کے ایکٹ کے تحت مذکور تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے۔

سیکشن ہاؤسنگ کمیونٹی ڈویلپمنٹ ایکٹ کے سیکشن 104(d)(2)(A) اور CFR 42.350 میں مذکور تقاضوں میں اس حد تک چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ URA کے تقاضوں اور CFR 49 حصہ 24 کے اطلاقی ضابطے سے اختلاف کرتی ہیں، جیسا کہ آفت میں بحالی سے متعلقہ سرگرمیوں کے لیے نوٹس میں ترمیم شدہ ہے۔ اس چھوٹ کے بغیر، HUD اور FEM (جیسے خریداری اور منتقلی) کی جانب سے عمومی طور پر فنڈ کردہ سرگرمیوں کے ساتھ منسلکہ منتقلی کی معاونت میں عدم مساوات موجود ہوتی ہے۔ FEMA اور CDBG فنڈز URA کے تقاضوں سے مشروط ہیں؛ تاہم، CDBG فنڈز سیکشن 104(d) سے مشروط ہیں جبکہ FEMA کے فنڈز مشروط نہیں۔ URA 42 مہینے کی مدت پر مشتمل کرایہ داری معاونت کی ادائیگی وصول کرنے والے مہاجر فرد کی اہلیت فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس، سیکشن 104(d) کم آمدنی کے حامل مہاجر فرد کو URA کرایہ داری معاونت کی ادائیگی اور 60 مہینے کی مدت کے لیے حساب کردہ کرایہ داری معاونت کی ادائیگی کے درمیان انتخاب کرنے کا مجاز کرتا ہے۔ سیکشن 104(d) کے تقاضوں کی چھوٹ URA اور اس کے نافذہ ضابطوں کا فیڈرل رجسٹر نوٹس کے تحت منتقلی کی معاونت کے لیے بطور واحد معیار مرتب کرتے ہوئے مساوی سلوک اور تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔

D. زیادہ سے زیادہ معاونت

GLO کی آفت بحالی کے پروگرام کے تحت ذیلی وصول کنندگان کے لیے دستیاب معاونت کی زیادہ سے زیادہ رقم HUD کے سب سے زیادہ متاثرہ اور تباہ شدہ جنگھوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تفویض کی جائے گی۔ تمام رہائشی اور خریداری کے پروگرامز کے لیے GLO ہاؤسنگ ہدایات زیادہ سے زیادہ رہائشی معاونت تشکیل دیتی ہیں۔ ہر ذیلی وصول کنندہ GLO کی زیادہ سے زیادہ ہاؤسنگ معاونت کے مساوی یا کم ہونے کے لیے اس پروگرام کے تحت بینیفٹسری کے لیے دستیاب معاونت کی زیادہ سے زیادہ رقم کا تعین کرے گا۔ اگر ذیلی وصول کنندہ کی زیادہ سے زیادہ رہائشی معاونت GLO

کی رقم سے تجاوز کر جاتی ہے تو ایک چھوٹ کی درخواست GLO کو ارسال کی جانی چاہیے۔ GLO لاگت کی موثریت کے لیے ہر رہائشی معاونت کی چھوٹ کی درخواست کا جائزہ لے گا۔

E. اونچائی کے معیارات

GLO درج ذیل اونچائی کے معیارات کا نئی تعمیرات، بڑی تعداد میں نقصان کی مرمتی، یا سیلاب کے خطرے سے دوچار جگہ کے طور پر نشان کردہ جگہ یا (1) 24 CFR 55.2(b) میں شناخت کردہ FEMA کے ڈیٹا ذرائع میں مساوی جگہ میں موجود عمارت کی بڑی تعداد میں بہتری کے ضمن میں اطلاق کرے گا۔ سیکشن 44 CFR 59.1 میں وضاحت کردہ طور پر تمام عمارتی ڈھانچے جو بنیادی طور پر رہائشی استعمال کے لیے ڈیزائن کیے جائیں اور 100-سالہ (یا 1 فیصد سالانہ موزوں وقت) سیلابی میدان میں موجود ہو جو (10) 24 CFR 55.2(b) کے تحت واضح کردہ طور پر نئی تعمیر، بڑی مقدار میں نقصان کی مرمتی، یا خاصی مقدار میں بہتری کے لیے معاونت وصول پائے، اسے زیریں فلور بشمول بیسمنٹ کے ساتھ سالانہ سیلابی میدان کی اونچائی سے کم از کم 2 فٹ اوپر ہونا چاہیے۔ سالانہ سیلابی میدان سے نیچے کے رہائشی یونٹس اور رہائشیوں سے پاک مخلوط استعمال کی عمارت کو 44 CFR 60.3(c)(3)(ii) کے تحت FEMA سیلاب سے تحفظ کے معیارات یا قائم مقام معیار کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے سالانہ سیلابی میدان سے کم از کم 2 فٹ اونچی اور سیلاب سے محفوظ ہونی چاہیے۔ سیلاب کے میدان کی مینجمنٹ کے لیے ریاستی، مقامی اور قبائلی قابل نفاذ ضابطے اور معیارات جو ان تقاضوں سے تجاوز کریں بشمول اونچائی، سیٹ بیکس، اور بڑی مقدار میں نقصان کے مجموعی تقاضوں کی پیروی کی جائے گی۔

GLO ساحل پر موجود گھروں اونچائی کے لیے لاگتوں کی حد \$60,000 اور غیر ساحلی اونچائی کے لیے \$35,000 کی حد مقرر کی ہے۔ یہ بڑھتی ہوئی لاگتوں کی حد بندی ماضی کے CDBG-DR GLO ہاؤسنگ کی بحالی/تعمیر نو کے پروگرامز کے ساتھ منسلک لاگتوں کو زیر غور لاتے ہوئے تشکیل دی گئی تھیں۔ ان مقررہ حدود کی نسبت زیادہ اونچائی کی لاگتوں کے لیے GLO سے چھوٹ کی درخواست ضروری ہو گی۔ جب ایک گھر کے لیے تعین کیا جا رہا ہو کہ آیا اسے بحال کریں یا دوبارہ تعمیر کریں تب اونچائی کے تقاضوں کو زیر غور لایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر، گھر تب تعمیر کیا جائے گا جب گھر کی مرمتی کی لاگت \$65,000 سے زائد ہو، اس حوالے سے اسٹنٹی میں وہ گھر شامل ہو سکتے ہیں جو تاریخی طور پر ڈیزائن کیے گئے ہوں۔

F. پلاننگ اور کوارٹینیشن

GLO کے بحالی کے پروجیکٹس اس طریقے سے بنائے جائیں گے کہ جو انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ علاقوں میں طویل المدتی بحالی اور انفراسٹرکچر، رہائش کی بحالی اور معیشت کی تجدید سے نمٹنے کے لیے مربوط کردہ حکمت عملی زیر غور لائیں۔

GLO تباہ شدہ کمیونٹیز کی بحالی اور احیاء کے ضمن میں مدد کے لیے دستیاب ذرائع کو مربوط کرتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں واضح مختصر و طویل المدتی بحالی کے پلانز کے فروغ کے ضمن میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ریاستی اور مقامی اختیارات کے ساتھ کام کو جاری رکھے گا۔ آفت سے بحالی متاثرہ کمیونٹیز کو وسیع نوعیت کے مسائل جیسے نکاسی اور سیلاب کا کنٹرول، رہائش کا معیار اور دستیابی، سڑک اور ریل کے نیٹ ورکس، ماحولیاتی مسائل، اور موجودہ انفراسٹرکچر کی موزونیت کا معائنہ کرنے کے لیے منفرد مواقع پیش کرتا ہے۔ GLO مقامی اور علاقائی کمیونٹیز کی جانب سے نافذ کردہ طویل المدتی پلانز کی معاونت کرے گا، جو آفت کے بعد خطرے کے رسک کی جانب سے مطلع کردہ واضح، قابل برداشت، طویل مدتی بحالی کی پلاننگ کریں، خاص طور پر زمین کے استعمال کے فیصلے جو سیلابی میدان کی ذمہ دار مینجمنٹ کی عکاسی کرتے ہوں۔

مقامی اور علاقائی پلاننگ کی کوششوں کے ضمن میں تسلسل کو یقینی بنانے، کمیونٹی سطح اور/یا علاقائی (جیسے متعدد مقامی اختیارات) آفت کے بعد بحالی اور تخفیف، اور ان کوششوں کے فروغ کے لیے GLO زیادہ سے زیادہ ممکن حد تک ہم آہنگی پیدا کرے گا۔ اس ایکشن پلان میں بعد میں تفصیل کردہ طور پر، GLO پلاننگ، مطالعات اور ڈیٹا کے تجزیے کو مزید ہم آہنگ کرنے کے سلسلے میں ٹیکساس کی پبلک یونیورسٹیز کے ساتھ شراکت کو استعمال کرے گا۔

G. انفراسٹرکچر کی سرگرمیاں

GLO ذیلی وصول کنندگان کو تخفیف کے اقدامات کو تعمیر نو کی سرگرمیوں میں مربوط کرنے اور اس گرانٹ کے ذریعے فنڈ کردہ انفراسٹرکچر کی سرگرمیاں علاقائی یا مقامی طور پر قائم کردہ پلانز اور پالیسیز جو عمل داری علاقے کے لیے مستقبل کے خطرے کو گھٹانے کے لیے بنائی گئی ہوں اس میں مذکور مقاصد کو حاصل کرنے کی حد کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ مستقبل کے، جاری، اور سابقہ سر انجام دیئے گئے علاقائی مطالعہ جات کی آگہی کے ساتھ GLO کا مقصد بحالی اور تخفیف کاری کا مزید کلیت کے ساتھ احاطہ کرنے کے لیے آس پاس کے علاقوں کے مابین پراجیکٹس کی بہتر کوارڈینیشن کو یقینی بنانا ہے۔

GLO ذیلی وصول کنندگان کو CDBG-DR کے اہل پراجیکٹس منتخب کرنے وقت پراجیکٹ کی لاگت اور فوائد کو زیر غور لانے کی حوصلہ افزائی کرے گا۔

GLO یہ یقینی بنانے کی کوشش کرے گا کہ انفراسٹرکچر کی سرگرمیاں زد پذیر کمیونٹیز پر غیر متناسب طور پر اثر انداز نہ ہوں اور قابل عمل حد تک مقامی کمیونٹیز کو درپیش معاشی عدم مساوات کا سدباب کرنے مواقع پیدا کرے گا۔ تمام پراجیکٹس کی درخواستیں منظوری سے قبل GLO کی جانب سے AFFH جائزے سے گزریں گی۔ AFFH درخواست کے جائزے میں تجویز کردہ پراجیکٹ کی (1) علاقے کی ڈیموگرافی، (2) سماجی و معاشی خصوصیات، (3) رہائش کی تشکیل کاری اور ضروریات، (4) تعلیمی، ذرائع نقل و حمل، اور نگہداشت صحت کے مواقع، (5) ماحولیاتی خطرات یا خدشات، اور (6) AFFH کی تعین کاری کے لیے دیگر تمام عناصر کی تشخیصات شامل ہوں گی۔

طے کردہ دیگر ریاستی یا مقامی طور پر سرمایے کی بہتریوں اور انفراسٹرکچر کی ترقی کی کوششوں کے ساتھ سرمایہ کاریوں کو ہم آہنگ کرنے کے ضمن میں ذیلی وصول کنندگان کی معاونت کے لیے وفاقی، ریاستی، مقامی، نجی اور غیر منافع بخش ذرائع کے ساتھ مربوط کرے گا۔ GLO متعدد ذرائع بشمول نجی سرمایہ کاری کے لیے موجودہ ریاستی و مقامی سرمایہ کی بہتری کے زیر منصوبہ اور ممکنہ پراجیکٹس کی جانب سے انفراسٹرکچر کی اضافی فنڈنگ کے امکان کو فروغ دینے کے لیے ذیلی وصول کنندگان کے ساتھ کام کرے گا۔

GLO انفراسٹرکچر کے قبل از وقت متروک ہونے سے بچاؤ کے ضمن میں قابل بھروسہ اور مطابقت پذیر ٹیکنالوجیز کو اختیار کرنے کے لیے ذیلی وصول کنندگان کی جانب سے حاصل کردہ پروفیشنل انجینرز پر بھروسہ کرے گا۔

H. فنڈ کا استعمال

GLO دیگر وفاقی، ریاستی، مقامی، نجی اور غیر منافع بخش ذرائع کی جانب سے فراہم کردہ فنڈنگ کے ساتھ محدود CDBG-DR فنڈز کو انتہائی ممکنہ حد تک استعمال کرنے کے لیے ذیلی وصول کنندگان کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ GLO فنڈز کے استعمال کے حوالے سے DRGR سسٹم میں رپورٹ کرے گا۔

GLO براہ راست معاونت برائے گھر کی مرمتی کے محدود پروگرام اور PREPS پروگرام کے ذریعے مختصر مدتی رہائشی بحالی کے لیے FEMA اور GLO کی جانب سے رواں کام کے ساتھ CDBG-DR فنڈز کے اضافے کی توقع کرتا ہے۔ GLO اور ذیلی وصول کنندگان مقامی حکومتوں، مقامی طویل المدتی بحالی کے گروپس، مقامی غیر منفعتی تنظیموں اور زد پذیر آبادیوں کے وکالتی گروپس کے ساتھ تعاون کی بھی توقع کرتا ہے۔

جب فنڈز کو ایل CDBG-DR کی سرگرمی انجام دینے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں FEMA یا USACE کی جانب سے انتظام کردہ سرگرمیوں یا پروگرامز شامل ہوتے ہیں۔ قانون کے مطابق (HCD ایکٹ میں (a) 105 کے نوٹ کے طور پر کوڈ شدہ)، CDBG-DR فنڈز کی رقم جو USACE پروجیکٹ میں حصہ ڈالنے کے لیے استعمال کی جائے وہ \$250,000 یا کم ہے۔

I. عوام اور املاک کا تحفظ

1. معیاری تعمیرات کے معیارات

GLO تمام پراجیکٹس پر معیار کے معائنے اور ضابطے کے ساتھ مطابقت دونوں کا تقاضہ کرے گا۔ تعمیر کے ضابطوں کے ساتھ مطابقت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے تمام پراجیکٹس پر سائٹ معائنے درکار ہوں گے۔ GLO جہاں قابل اطلاق ہو، سمندر کی سطح بلند ہونے، تیز ہواؤں، طوفانی ہوائیں، اور سیلاب کی وجہ سے خطرے کے رسک کو کم کرنے کے ضمن میں مقامی ضابطے کی تعمیل کو مستحکم کرنے اور اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ذیلی وصول کنندگان کی معاونت اور حوصلہ افزائی کرے گا۔ پراجیکٹ کی درخواست میں، ذیلی وصول کنندگان خطرے کے رسک کو گھٹانے کے لیے حالیہ اور مستقبل دونوں کے طے کردہ ضابطوں کی وضاحت بھیجے گا۔ GLO خطرے کی تخفیف کے کوڈ کی مثالوں کے ضمن میں ٹیکنیکل رہنمائی فراہم کرے گا۔

رہائشی عمارت کی تعمیر نو یا نئی تعمیر کے لیے، GLO گرین بلڈنگ معیارات کے لیے ENERGY STAR پروگرام کی پیروی کرے گا۔ معمولی طور پر تباہ شدہ رہائشی عمارت کی بحالی کے لیے، GLO HUD CPD گرین بلڈنگ ریٹروفٹ چیک لسٹ میں بیان کردہ ہدایات کی ممکنہ حد تک پیروی کرے گا۔ انفراسٹرکچر کے پراجیکٹس کے لیے، قابل عمل حد تک GLO گرین بلڈنگ کے ضابطہ عمل کی نفاذ کاری کی حوصلہ افزائی کرے گا۔

2. ہاؤسنگ کنٹریکٹرز کے معیارات

GLO ہاؤسنگ کنٹریکٹرز کی اہلیت کے لیے درخواست میں معیارات تشکیل دے گا اور ذیلی وصول کنندگان کی ایسا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ معیارات میں کمپنی کی (1) تنظیمی ڈھانچے اور صلاحیت، (2) عمل درآمد کی اہلیت، (3) حالیہ مکمل کردہ یا گزشتہ 5 سالوں میں زیر تکمیل تعمیراتی پراجیکٹس، (4) کارکردگی اور ادائیگی کے بانڈ کی گنجائش، (5) گزشتہ دو سال کی مالیاتی اسٹیٹمنٹس (6) انشورینس کوریج کا ثبوت، اور (7) کاروبار کی رجسٹریشن، سرٹیفیکیشنز، اور لائسنسز کے ضمن میں معلومات شامل ہوں گی، لیکن اس تک محدود نہیں۔

کھلے اور مکمل مسابقت کے لیے، ذیلی وصول کنندگان کے لیے 200.326 – 200.318 CFR 2 میں بیان کردہ وفاقی معاہدے اور پروکیورمنٹ کے تقاضوں کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ GLO ذیلی وصول کنندہ کی پروکیورمنٹ کی نگرانی کرے گا۔ GLO کو ہاؤسنگ کے لیے تعمیرات کے بعد کی مدت کے لیے وارنٹی درکار ہو گی؛ کنٹریکٹر کی جانب سے سرانجام دیئے گئے تمام کاموں کے لیے 1 سال کی مدت کی ضمانت ہو گی۔

J. ایپلز کی کاروائیاں

GLO آپریشنز کی معیاری سطح کو برقرار رکھنے کے لیے شکایات اور ایپلز کا بروقت اور پروفیشنل طرز پر جواب دینا ہے۔ GLO کی ایپلز کی کاروائیاں کا گھریلو مالکان، کنٹریکٹرز، شہروں، کاؤنٹیز، رہائشی حکام اور دیگر اداروں کی

جانب سے وصول شدہ اپیلز پر اطلاق ہوتا ہے۔ GLO قابل اطلاق ذیلی وصول کنندہ اور/یا ہاؤسنگ کنٹریکٹر کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہوئے گھریلو مالکان کو ردعمل دے گا۔

GLO کو وصول ہونے والی ہر شکایت یا اپیل کا ریکارڈ معلوماتی فائل میں رکھا جاتا ہے۔ جب ایک شکایت یا اپیل موصول ہوتی ہے، تو GLO جہاں قابل عمل ہو 15 دن کے اندر شکایت کنندہ یا اپیل کنندہ کو جواب دے گا۔ موقع کی مناسبت سے GLO ٹیلی فون کمیونیکیشن کو رابطے کے بنیادی طریقے کے طور پر استعمال کرے گا؛ ای میل اور پوسٹ مارک شدہ خطوط دستاویزی بات چیت اور دستاویز کی ترسیل کے لیے بوقت ضرورت استعمال ہوں گے۔

شکایت کنندہ کے حقوق اور شکایت کے اندراج کا طریقہ مناسب اور معقول طور پر تمام پروگرام کی درخواستوں، ہدایات، GLO کی پبلک ویب سائٹ، اور ذیلی وصول کنندہ کی ویب سائٹس میں تمام مقامی زبانوں میں پرنٹ ہونا چاہیے۔ شکایت کے حوالے سے GLO کے فیصلے پر اپیل کرنے کے لیے طریقہ کار شکایت کنندگان کو شکایت کے جواب کے حصے کے طور پر تحریری صورت میں فراہم کرنا چاہیے۔

K. ڈیم اور دریائی بند کے تقاضے

جیسا کہ فیڈرل رجسٹر جلد 83 نمبر 28 جمعہ 9 فروری 2018 مذکور ہے، CDBG-DR فنڈز کو ڈیم یا دریائی بند کو ڈھانچے کے اصل مقام جو آفت کے واقع سے قبل موجود تھا اس سے آگے بڑھا کر توسیع کرنے کے لیے استعمال کرنا ممنوع ہے۔ GLO اس بات کا یقینی بنائے گا کہ اگر ذیلی وصول کنندہ CDBG-DR فنڈز کو دریائی بند اور ڈیمز کے لیے استعمال کرتا ہے تو، ذیلی وصول کنندہ (1) ایسے ڈھانچوں کے ضمن میں امریکی آرمی انجینئرز کے دستوں قومی دریائی بند کے ڈیٹا بیس یا ڈیمز کی قومی انویٹری میں انٹریز کے اندراج اور برقرار رکھے گا، (2) یقینی بنائے گا کہ ڈھانچہ امریکی آرمی انجینئرز کے PL 84-99 پروگرام (دریائی بند کی بحالی اور بہتری کا پروگرام) میں درج ہے، اور (3) یقینی بنائے گا کہ ڈھانچہ FEMA کے قومی سیلاب کی انشورینس کے پروگرام کے تحت تسلیم شدہ ہے۔ GLO DRGR سسٹم میں ڈھانچے کی درست جگہ، اور ڈھانچے کی مدد سے محفوظ کردہ اور استفادہ شدہ جگہ پر اپ لوڈ ہو گا اور فائل کی دستاویزی بندی کو یہ ظاہر کرنے کے لیے برقرار رکھے گا کہ وصول کنندہ نے سیلاب کنٹرول کے سٹرکچر کی فنڈنگ سے قبل خطرے کی تشخیص سر انجام دی ہے اور یہ کہ سرمایہ کاری میان خطرہ گھٹانے کے اقدامات شامل ہیں۔

L. پروگرام کی آمدن

کسی بھی پروگرام کی آمدن جو اس گرانٹ کے تحت فنڈ کردہ سرگرمیوں کے نتیجے میں کمائی گئی ہو وہ CFR 24 570.489(e) کے متبادل تقاضوں سے مشروط ہوں گی، جو پروگرام کی آمدن کی وضاحت کرتی ہیں۔ ذیلی وصول کنندہ کے ساتھ انفرادی کنٹریکٹس کے تحت بنائی گئی پروگرام کی آمدن واپس GLO کے پاس جائے گی۔ GLO اپنی صوابدید پر پروگرام کی آمدن کو بحالی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے کمیونٹی کے حوالے کرنے کا مجاز کر سکتا ہے۔

M. نگرانی کے معیارات

GLO CDBG-DR پروگرام کے انتظام میں تمام قابل نفاذ CDBG اور متعلقہ وفاقی تقاضوں میں سرگرمیوں کی نگرانی اور پروگرام کی مکمل نگرانی فراہم کرتا ہے۔ وصول کنندگان کو درخواست کے مرحلے سے پراجیکٹس کی تکمیل تک یہ یقینی بنانے کے لیے کہ فنڈز CDBG-DR سرگرمیوں کے لیے مناسب طور پر استعمال کیے گئے ہیں نیز یہ قومی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں GLO اسکی ٹیکنیکل معاونت فراہم کرے گا۔

ایگزیکٹو آرڈر RP 36 12 (EO) جولائی 2004 کو ٹیکساس کے گورنر کی جانب سے دستخط شدہ ایگزیکٹو آرڈر کے مجاز کردہ طور پر GLO معیار کو یقینی بنانے اور دھوکہ دہی سے بچاؤ، شناخت، اور ختم کرنے، فضلہ اور غلط استعمال کے لیے تمام کنٹریکٹ کے اخراجات کی نگرانی کرے گا۔ GLO خاص طور پر اکاؤنٹنگ، پروکیورمنٹ اور احتساب سے متعلقہ دھوکہ دہی، غلط استعمال، اور بے انتظامی کی تخفیف پر زور دے گا جس کی تفتیش ریاستی آڈیٹر آفس (SAO) کی جانب سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ GLO اور وصول کنندگان 2 CFR 200 کے مستقل رہنما ہدایات سے مشروط ہیں، جو آزادانہ سرٹیفائیڈ پبلک اکاؤنٹنٹ (CPA) یا SAO کی جانب سے فنڈز کے مناسب اخراجات اور پروگرام کے تقاضوں کے ساتھ عمل کے جائزے کا احاطہ کرتا ہے۔ SAO آفس کی جانب سے رپورٹس گورنر کے دفتر، قانون ساز کمیٹی اور GLO کو ارسال کی جائیں گی۔

GLO کے پاس اندرونی آڈٹ کا عملہ موجود ہے جو پروگرامز کے آزادانہ اندرونی آڈٹس سر انجام دیں گے اور ان پروگرامز اور وصول کنندگان کے ضمن میں ایسے آڈٹس سر انجام دے سکتے ہیں۔ GLO کے پاس بھی آزادانہ آڈیٹنگ کا عملہ ہے جو براہ راست GLO کے کمشنر اور چیف کلرک کو رپورٹ کرتا ہے۔ GLO خاص طور پر یہ یقینی بنانے کے لیے نگرانی کا پلان استعمال کرے گا کہ بحالی کی تفویض کاریاں ریاستی اور وفاقی قوانین، اصول اور ضابطوں نیز فیڈرل رجسٹر نوٹسز میں منکور تقاضوں کے مطابق سر انجام دی گئی ہے۔ نگرانی کے پلان میں سٹیفورڈ ایکٹ کے ساتھ عمل کو یقینی بنانے کے لیے مراعات کے جائزے کی نقول بھی شامل کی جائیں گی۔

N. براڈبینڈ انفراسٹرکچر

فیڈرل رجسٹر جلد 83 نمبر 28 جمعہ 9 فروری 2018 میں درکار طور پر، جیسا کہ 24 CFR 5.100 میں مذکور ہے کہ چار سے زائد کرائے کے یونٹس کی حامل عمارت کی نئی تعمیر یا بڑے پیمانے پر بحالی میں 24 CFR 5.100 میں مذکور طور پر براڈ بینڈ انفراسٹرکچر کی تنصیب شامل ہو گی، ماسوائے جہاں وصول کنندہ دستاویزی طور پر تحریر کرے کہ: (1) نئی تعمیر یا بڑے پیمانے پر بحالی کا مقام براڈ بینڈ انفراسٹرکچر کی تنصیب کو ناقابل عمل کر دیتا ہے؛ (2) براڈ بینڈ انفراسٹرکچر کی تنصیب کی لاگت اس پروگرام یا سرگرمی کی نوعیت میں بنیادی تبدیلی یا حد سے زیادہ مالی بوجھ کا باعث بنے گی؛ یا (3) بڑے پیمانے پر بحال ہونے والی عمارت کا ڈھانچہ براڈ بینڈ انفراسٹرکچر کو ناقابل عمل بناتا ہے۔

O. آفت سے بحالی اور رسپانس کا پلان

مقامی، علاقائی اور ریاستی پلاننگ کی سرگرمیوں کی ترویج کے ضمن میں یونیورسٹیز اور/یا وینڈرز کے ساتھ کام کرنے کے علاوہ، GLO ایک آفت سے بحالی اور رسپانس پلان تیار کرے گا جو حالیہ منصوبوں میں بہتری اور باہم انضمام کے ذریعے طویل المدتی بحالی اور آفت سے پہلے اور بعد میں خطرے کی تخفیف سے نمٹے گا۔

IV. ریاست کے زیر انتظام آف سے بحالی کا پروگرام

A. ایکشن پلان

فیڈرل رجسٹر جلد 83 نمبر 28 جمعہ 9 فروری 2017 میں درکار طور پر، ان مخصوص سرگرمیوں یا پروگرامز کی تفصیلات اور فنڈز کی تقسیم کے طریقے جو GLO براہ راست سر انجام دے اس کو ایکشن پلان میں بیان کرنا چاہیے۔ اس پلان کے ضروریات کے جائزے، سیکشن II بحالی کی سرگرمیوں کو ترویج اور ترجیح دینے کے لیے سر انجام دیئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ، GLO نے متاثرہ شہریوں، اسٹیک ہولڈرز، مقامی حکومتوں اور پبلک ہاؤسنگ حکام کے ساتھ ضروریات کے جائزے کے لیے مشاورت کی ہے۔

اس ایکشن پلان میں درج ذیل مذکور ہوں گے: اہل متاثرہ علاقے اور ذیلی وصول کنندگان؛ اہلیت کے لیے معیار؛ ان ذیلی وصول کنندگان میں فنڈز کی تقسیم کے لیے استعمال ہونے والا طریقہ کار؛ سرگرمیاں جن کے لیے فنڈنگ استعمال ہو سکتی ہے؛ اور پروگرام کے تقاضے بشمول مراعات کا دو چند نہ ہونا۔ اس ایکشن پلان میں یہ بھی وضاحت ہو گی کہ ان تفویض کردہ وسائل کا استعمال آفت میں ریلیف، طویل المدتی بحالی اور انفراسٹرکچر کی بحالی اور رہائشی اور معاشی احیاء نو سے متعلقہ ضروری اخراجات کا احاطہ کیسے کرتا ہے۔

B. ڈائریکٹ تفویض کاری

ہوسٹن شہر اور ہیرس کاؤنٹی میں سے ہر ایک کو HUD کی ہدایت پر ریاست کے فنڈز میں سے ڈائریکٹ فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ ہوسٹن شہر اور ہیرس کاؤنٹی کو تفویض کردہ رقوم HUD کی جانب سے حساب کردہ نامکمل ضرورت کی رقوم ہیں۔ یہی یکساں طریقہ HUD کی جانب سے ریاست کو \$5.024 بلین تفویض کرنے کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ رقوم ہیرس کاؤنٹی کے معاشی نمو کے پروگرام اور ریاستی انتظامی لاگتوں کے لیے سابقہ تفویض کاری کے لیے مرتب کر دی گئی ہیں۔

چونکہ ہوسٹن شہر اور ہیرس کاؤنٹی نے ریاست کے معاشی نمو کے پروگرام سے استثنیٰ کے حامل بحالی کے اپنے پروگرامز تشکیل دینے کا انتخاب کیا۔ ہر ایک کو مقامی ایکشن پلان تشکیل دینے کی ضرورت ہو گی۔ مقامی ایکشن پلان HUD کی جانب سے فیڈرل رجسٹر نوٹس میں مذکور کردہ تقاضوں کی مطابقت کے ساتھ تشکیل دینے چاہیے۔ ہیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر کے ایکشن پلان میں کم از کم درج ذیل شامل ہونے چاہیے: نامکمل ضروریات کے ساتھ تعلق، مقامی پروگرامز اور تقاضے، مقامی مشاورت، اور اخراجات کی ٹائم لائن۔ CDBG-DR پروگرام کے فنڈز کا 70% سے کم یا درمیانی آمدن کے حامل افراد کے فائدے والی سرگرمیوں کی معاونت میں استعمال ہونی چاہیے۔

HUD کی جانب سے فراہم کردہ عوامی قانون 115-56 کے لیے مکمل ایکشن پلان کی چیک لسٹ ہر مقامی ایکشن پلان کے ساتھ ارسال کی جانی چاہیے۔ یہ مقامی ایکشن پلانز مستقبل کے ایکشن پلان کی ترامیم کے ذریعے GLO کے جائزے کے بعد HUD کی منظوری سے ارسال کیے جائیں گے۔

GLO کے لیے فیڈرل رجسٹر نوٹس کے تحت ضروری ہے کہ وہ اس کے ذیلی وصول کنندگان حالیہ طور پر یا مستقبل میں آفت سے بحالی کی سرگرمیوں کو بروقت طریقے سے سر انجام دینے کی صلاحیت کو برقرار اور ترویج دیں گے۔ ہوسٹن شہر اور ہیرس کاؤنٹی کے لیے معاون دستاویزات کے ساتھ مالیاتی مینیجمنٹ اور امداد کی تعمیل کاری کی

سرٹیفیکیشن، نفاذ کاری کا پلان اور صلاحیت کا جائزہ درکار ہو گا۔ GLO ایک آزادانہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے صلاحیت کی سرٹیفیکیشن کا جائزہ لے گا۔

ہوسٹن شہر اور بیرس کاؤنٹی GLO کے ساتھ ذیلی وصول کنندگان کے معاہدوں کی تعمیل کرے گا اور ان کی حدود میں مقامی پروگرام کی نفاذ کاری کے لیے ذمہ دار ہو گا۔

C. نامکمل ضروریات سے تعلق

فیڈرل رجسٹر جلد 83 نمبر 28، 9 فروری 2018 میں درکار طور پر، GLO HUD کے شناخت کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقوں کے اندر نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے 80 فیصد فنڈز مختص کرے گا۔

ارنساس، برازوریا، چیمبیرز، فورٹ بینڈ، گالویسٹن، ہارڈن، بیرس، جیفرسن، لیبرٹی، منٹگمری، نوسیس، اورنج، سان جاکنتو، سان پیٹریسیو، وکٹوریا، وبارٹن کاؤنٹیز؛ 75956, 75979, 77335, 77414, 77423, 77612, 77979, 78377, 78934 اور 78945 زپ کوڈز

بقیہ 20 فیصد وسائل صرف ان کاؤنٹیز کی نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گی جنہیں طوفان ہاروے صدارتی اہم آفت کے باضابطہ اعلان (DR-4332) وصول ہوا ہو۔

یہ ایکشن پلان بنیادی طور پر رہائشی نامکمل ضروریات کا احاطہ کرتا ہے جہاں ریاستی پروگرام کے 66 فیصد فنڈز براہ راست رہائش کی نامکمل ضروریات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ضروریات کے جائزے کے ذریعے، GLO نے درج ذیل رہائشی پروگرامز تشکیل دیئے ہیں: گھریلو مالکان کا معاونتی پروگرام؛ مقامی خریداری/حصول کا پروگرام؛ گھریلو مالک کے لیے نقصان کی ادائیگی کا پروگرام؛ بے گھری سے بچاؤ کا پروگرام؛ کم قیمت کرائے کی رہائش کا پروگرام۔ اس کے علاوہ، GLO نے ریاست کی جانب سے جزوی مرمتی اور پناہ کے لیے ضروری پاور (PREPS) پروگرام کے لیے لاگت کے اشتراک کے لیے فنڈز مختص کیے ہیں۔ یہ پروگرامز CDBG-DR کے وفاقی اور ریاستی تقاضوں اور ضابطوں کو پورا کرنے، اور طویل المدتی رہائش کی بحالی ممکن حد تک موثر اور قابل طریقے سے نافذ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ توقع کی گئی ہے کہ عوامی سروس کی نوعیت کی سرگرمیاں ان ہاؤسنگ کی سرگرمیوں کی تکمیل کے لیے استعمال کی جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ عوامی سروس کی سرگرمیوں میں ہاؤسنگ کی مشاورت، قانونی مشاورت، ملازمت کی تربیت، دماغی صحت، اور عمومی صحت کی سروسز شامل ہو سکتی ہیں لیکن اس تک محدود نہیں۔

اکثریتی فنڈز گھریلو مالکان کے اپنے گھروں کی مرمتیوں، بحالی اور تعمیر نو کے لیے ادائیگیوں کے ذریعے ان کی معاونت کرنے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ گھروں کو نقصان دہ طریقے سے ہٹانے کے لیے رہائش کی خریداریوں اور حصول کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔

ضروریات کا جائزہ اور مشاورتی عمل GLO کو بے گھری سے بچاؤ کے پروگرام کی ضرورت سے باخبر رکھتا ہے۔ یہ پروگرام قرض کی معاونت، بوٹیلٹی معاونت، اور کم اور درمیانی آمدن کے حامل گھرانے جو طوفان ہاروے سے متاثر یا بے گھر ہوئے ہوں ان کے لیے کرایہ دار کی بنیاد پر کرائے کی معاونت فراہم کرے گا۔

کم قیمت کرائے کا پروگرام طوفان ہاروے کے اثر کے نتیجے میں کم قیمت کرائے کے یونٹس کی ضرورت کا احاطہ کرے گا۔ یہ پروگرام ملٹی فیملی ڈویلپمنٹس کی بحالی، تعمیر نو اور نئی تعمیر کے لیے مجاز کرے گا۔ رینٹل پروگرام کا مقصد کم- اور درمیانی-آمدن کے حامل گھرانوں کے لیے کم قیمت رینٹل سٹاک کو بڑھانا اور ان کی مرمتی کرنا ہے۔

GLO گھر کی محدود مرمتی کے پروگرام اور PREPS پروگرام کے لیے براہ راست معاونت کے ذریعے مختصر مدتی رہائشی بحالی کے لیے GLO اور FEMA کے زیر اہتمام جاری کام کے حوالے سے CDBG-DR فنڈز کے استعمال کی توقع کرتا ہے۔ GLO اور ذیلی وصول کنندگان مقامی حکومتوں، مقامی طویل المدتی بحالی کے گروپس، مقامی غیر منافع بخش تنظیموں اور زد پذیر آبادیوں کے اعانتی گروپس کے ساتھ تعاون کی بھی توقع کرتے ہیں۔

اگرچہ یہاں دستیاب فنڈز محدود ہونے کی وجہ سے نامکمل رہائشی ضروریات باقی ہیں، GLO سمجھتا ہے کہ طویل المدتی بحالی کے جامع پروگرام کے حصے کے طور پر، مقامی انفراسٹرکچر کی بہتری و مرمتی اور تخفیف کی کوششیں نہایت اہم عناصر ہیں۔ انفراسٹرکچر سرگرمیاں نہ صرف مکانات کی طویل المدتی بحالی کے لیے اہم ہیں بلکہ کمیونٹیز کی طویل المدتی بحالی، تحفظ، اور احیاء کے لیے بھی اہم ہیں۔ اکیس (21) فیصد فنڈز انفراسٹرکچر اور معاشی ترقی سے متعلقہ نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہوں گے۔

GLO نے پانچ (5) فیصد فنڈز پلاننگ کی سرگرمیوں کے لیے مختص کیے ہیں۔ طوفان ہاروے کی آفت کی وسیع نوعیت اور علاقے میں آفات کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کی وجہ سے، GLO واض طویل المدتی بحالی کے لیے مخصوص مقامی حال کے علاوہ علاقائی حکمت عملیوں پر مرتکز رہے گا۔

GLO نے پانچ (5) فیصد فنڈز انتظامی اخراجات، بشمول کنٹریکٹ ایڈمنسٹریشن، تعمیل کاری کی نگرانی اور درخواست کنندگان اور ذیلی وصول کنندگان کو تکنیکی معاونت کی فراہمی کے لیے مختص کیے ہیں۔ تجربے کی بنیاد پر، یہ توقع کی جاتی ہے کہ چند وصول کنندگان کو اپنے پروگرامز کا نفاذ کرنے کے لیے براہ راست معاونت کی ضرورت ہو گی؛ اس لیے GLO دو فیصد پروجیکٹ ڈیلیوری کے لیے مختص کر رہا ہے۔ GLO کی ذیلی وصول کنندگان کو براہ راست معاونت کی فراہمی یہ یقینی بنانے میں مدد کرے گی کہ پروگرام ممکن حد تک موثر اور قابل طریقے سے نافذ کر دیا گیا ہے۔

تمام پروگرام کے فنڈز کا تقریباً 70 فیصد کم۔ اور درمیانی۔ آمدن (LMI) کے حامل افراد کو فائدہ دے گا۔

ذیل کے جدول میں ریاست ٹیکساس کی نامکمل ضروریات کا خلاصہ شناخت کیا گیا ہے۔ حسب ضرورت طوفان ہاروے کے نتیجے کے طور پر تفویض کردہ CDBG-DR فنڈنگ کے لیے طویل المدتی ضروریات اور ترجیحات کی شناخت کے لیے جائزہ مکمل کیا گیا۔ یہ جائزہ ڈیٹا کے مجموعی ذرائع کو زیر غور لاتا ہے جو متعدد علاقوں اور سیکٹرز کا احاطہ کرتا ہے۔ ضرورت کا جائزہ اہل اور انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ کمیونٹیز کے اندر نامکمل ضروریات کے متعلق مخصوص تفصیلات کا احاطہ کرتا ہے، اور رہائشی، انفراسٹرکچر، اور معاشی نمو کی تفصیلات کو شامل کرتا ہے۔ ضروریات کے جائزے کی اضافی معلومات اور فنڈز دستیاب ہیں یا اپ ڈیٹ شدہ ہیں کے طور پر ترمیم ہونے کی توقع ہے۔ نامکمل ضروریات کے خلاصے میں ہوسٹن شہر اور بیرس کاؤنٹی کو براہ راست تفویض کردہ رقوم شامل نہیں ہیں۔ ایک دفعہ جب ہوسٹن شہر اور بیرس کاؤنٹی پروگرام کی تفصیلات فراہم کرے تو یہ جدول مستقبل کے ایکشن پلان کی ترامیم میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا۔

جدول 18: کل نامکمل ضروریات کا خلاصہ

کیٹیگری	نقصانات/وقفہ	CDBG-DR انویسٹمنٹس*	دیگر معلوم انویسٹمنٹس	بقیہ نامکمل ضروریات
ہاؤسنگ	\$24,040,632,591	(\$1,878,176,297)	(\$6,585,789,808)	\$15,551,075,668
مالکانہ قبضے کی حامل ہاؤسنگ	\$6,955,738,472			\$6,955,738,472
رہائشی پراپرٹی کی انشورینس	\$2,500,000,000		(\$800,000,000)	\$1,700,000,000
ٹیکساس ہوائی طوفان کی انشورینس	\$1,060,311,256		(\$1,060,311,256)	\$0
نجی سیلابی یا فیڈرل سیلابی - اپنا لکھیں	\$7,200,000,000		(\$1,300,000,000)	\$5,900,000,000
سیلابی انشورینس کو قومی پروگرام	\$3,571,800,000		(\$3,425,478,552)	\$146,321,448
گھریلو مالکان کے ریاستی پروگرامز		(\$1,823,844,297)		(\$1,823,844,297)
کرایہ داری قبضہ کی حامل ہاؤسنگ	\$2,727,192,045			\$2,727,192,045
پبلک ہاؤسنگ اتھارٹی ہاؤسنگ	\$25,590,818			
بیرس کاؤنٹی کا خریداری پروگرام (Pub L. 115-31)		(\$43,465,600)		(\$43,465,600)
دیگر MI پروگرام (Pub L. 115-31)		(\$10,866,400)		(\$10,866,400)
انفراسٹرکچر	\$88,242,533,143	(\$435,605,083)	(\$24,518,279,829)	\$63,288,648,231
FEMA عوامی معاونت	\$27,242,533,143		(\$24,518,279,829)	\$2,724,253,314
ٹیکساس کی تعمیر نو	\$61,000,000,000			\$61,000,000,000
مقامی انفراسٹرکچر کا ریاستی پروگرام		(\$435,603,083)		(\$435,603,083)
اقتصادی	\$24,526,183,916	(\$105,363,344)	(\$990,591,709)	\$23,430,228,863
SBA کاروباری EIDL/قرضے	\$4,626,183,916		(\$579,389,800)	\$4,046,794,116
زراعت کے نقصانات	\$200,000,000			\$200,000,000
کل ریاستی پیداوار	\$16,800,000,000			\$16,800,000,000
آفت میں بے روزگاری کی معاونت			(\$11,201,909)	(\$11,201,909)
کمرشل پراپرٹی کی انشورینس	\$2,900,000,000		(\$400,000,000)	\$2,500,000,000
معاشی نمو کا ریاستی پروگرام		(\$105,363,344)		(\$105,363,344)
ڈائریکٹ تفویض کردہ پروگرام	\$0	\$0	\$0	\$0
ہوسٹن شہر کے پروگرامز				\$0
بیرس کاؤنٹی کے پروگرامز				\$0
مجموعے	\$136,809,349,650	(\$2,419,144,724)	(\$32,094,661,346)	\$102,269,952,762

CDBG-DR * انویسٹمنٹس میں پراجیکٹ ڈیلیوری کی لاگتیں شامل ہیں۔

D. ڈسٹریبیوشن کے لیے علاقائی طریقہ کار

GLO یہ تسلیم کرتا ہے کہ اضافی معلومات اور صراحت وقت کے ساتھ آئیں گی اور یہ توقع کرتا ہے کہ جیسے ہی اضافی فنڈز تفویض کیے گئے تب ان فنڈز کی تقسیم کے لیے طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ مکانات (گھریلو مالکان کے معاونتی پروگرام اور مقامی خریداری/حصول کے پروگرام) اور انفراسٹرکچر کے لیے علاقائی ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار (MOD) تیار کرنے کے لیے GLO نے یونیورسٹی آف ٹیکساس بمقام آسٹن کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ فنڈز کی تقسیم کے لیے MOD ان وسائل کے لیے مردم شماری کا ڈیٹا، FEMA انفرادی معاونت کا ڈیٹا، FEMA عوامی معاونت کا ڈیٹا، سماجی زد پذیری انڈیکس (SoVI)، اور طوفان ہاروے کے اثر کو استعمال کرتا ہے۔ مکانات اور انفراسٹرکچر دونوں میں، MOD کل نامکمل ضرورت، بحالی کی صلاحیت، اور متاثرہ جگہوں کی متعلقہ آبادی کے مابین توازن کو قائم کرتا ہے۔ جیسے ہی مزید ڈیٹا دستیاب ہوا تو مستقبل کے لیے مختص کردہ فنڈز کی تقسیم کے طریقے کے لیے اس ڈیٹا کو زیر غور لایا جا سکتا ہے جو آج کے ایکشن پلان میں موجود نہیں ہے۔ ان میں سے ہر تغیر بحالی کے عمل میں اہم عنصر کا کردار ادا کرتا ہے اور ڈسٹریبیوشن ماڈلز میں اس کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈسٹریبیوشن اور کیلکولیشن کے لیے طریقہ کار ضمیمہ میں موجود ہے۔ ڈسٹری بیوشن کے لیے علاقائی طریقہ کار میں ہوسٹن شہر اور ہیرس کاؤنٹی شامل نہیں ہیں۔

E- پروگرام کا بجٹ
جدول 19: وسائل کا کل بجٹ

بروگرام	HUD سب سے زیادہ متاثرہ علاقے (%80)	ریاست کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے (%20)	LMI قیمت (کل تفویض کاری کا %70)	کل میزان	بروگرام کے حساب سے کل تفویض کاری کی %	کل تفویض کاری کی %	کل میزان
برائے راست تفویض کاری کے پروگرامز							
برائے راست پروگرامز	\$ 1,155,119,250	\$ -	\$ 808,583,475	\$ 1,155,119,250	22.99%	45.19%	\$ 2,270,506,080
	\$ 1,115,386,830	\$ -	\$ 780,770,781	\$ 1,115,386,830	22.20%		
برائے راست تفویض کاری کا ذیلی میزان	\$ 2,270,506,080	\$ -	\$ 1,589,354,256	\$ 2,270,506,080			
ریاستی پروگرامز							
گھریلے مالک کا معائناتی پروگرام	\$ 838,409,053	\$ 209,602,263	\$ 733,607,921	\$ 1,048,011,316	20.86%	36.30%	\$ 1,823,844,297
AACOG	\$ -	\$ 6,000,000	\$ 4,200,000	\$ 6,000,000	0.573%		
BVCOG	\$ -	\$ 10,699,908	\$ 7,489,936	\$ 10,699,908	1.021%		
CAPCOG	\$ 25,177,399	\$ 17,012,974	\$ 29,533,261	\$ 42,190,373	4.026%		
CBCOG	\$ 94,571,084	\$ 27,037,385	\$ 85,125,928	\$ 121,608,469	11.604%		
CTCOG	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 1,400,000	\$ 2,000,000	0.191%		
DETCOG	\$ 82,401,375	\$ 45,482,652	\$ 89,518,819	\$ 127,884,027	12.203%		
GCRPC	\$ 32,657,218	\$ 23,281,471	\$ 39,157,082	\$ 55,938,689	5.338%		
H-GAC	\$ 398,582,727	\$ 78,087,873	\$ 333,669,420	\$ 476,670,600	45.483%		
SETRPC	\$ 205,019,250	\$ -	\$ 143,513,475	\$ 205,019,250	19.563%		
مقامی خرید / حصول کا پروگرام	\$ 220,496,714	\$ 65,124,178	\$ 192,934,624	\$ 275,620,892	5.49%		
AACOG	\$ -	\$ 4,152,165	\$ 2,906,515	\$ 4,152,165	1.506%		
BVCOG	\$ -	\$ 5,840,778	\$ 4,088,545	\$ 5,840,778	2.119%		
CAPCOG	\$ 6,347,500	\$ 6,581,974	\$ 9,050,632	\$ 12,929,474	4.691%		
CBCOG	\$ 27,437,060	\$ 6,938,635	\$ 24,062,987	\$ 34,375,695	12.472%		
CTCOG	\$ -	\$ 1,384,055	\$ 968,838	\$ 1,384,055	0.502%		
DETCOG	\$ 25,728,769	\$ 10,138,263	\$ 25,106,922	\$ 35,867,032	13.013%		
GCRPC	\$ 8,606,577	\$ 9,824,070	\$ 12,901,453	\$ 18,430,647	6.687%		
H-GAC	\$ 100,689,194	\$ 10,264,238	\$ 77,667,402	\$ 110,953,432	40.256%		
SETRPC	\$ 51,687,614	\$ -	\$ 36,181,330	\$ 51,687,614	18.753%		
گھریلے مالک کو واپس ادائیگی کا پروگرام	\$ 80,000,000	\$ 20,000,000	\$ -	\$ 100,000,000	1.99%		
بے گھریلے سے بچان کا پروگرام	\$ 40,000,000	\$ 10,000,000	\$ 50,000,000	\$ 50,000,000	1.00%		
مناسب کرانے کا پروگرام	\$ 200,000,000	\$ 50,000,000	\$ 250,000,000	\$ 250,000,000	4.98%		
PREPS پروگرام	\$ 58,140,000	\$ 14,535,000	\$ -	\$ 72,675,000	1.45%		
ریاستی منصوبے کی ڈیلوری	\$ 22,029,671	\$ 5,507,418	\$ 19,275,962	\$ 27,537,089	0.55%		
مقامی انفراسٹرکچر کا پروگرام	\$ 330,745,070	\$ 82,686,268	\$ 289,401,937	\$ 413,431,338	8.23%	10.77%	\$ 540,968,427
AACOG	\$ -	\$ 1,530,000	\$ 1,071,000	\$ 1,530,000	0.370%		
BVCOG	\$ -	\$ 3,007,825	\$ 2,105,477	\$ 3,007,825	0.728%		
CAPCOG	\$ -	\$ 4,305,474	\$ 3,013,832	\$ 4,305,474	1.041%		
CBCOG	\$ 107,994,372	\$ 17,809,866	\$ 88,062,967	\$ 125,804,238	30.429%		
CTCOG	\$ -	\$ 510,000	\$ 357,000	\$ 510,000	0.123%		
DETCOG	\$ 1,214,779	\$ 6,249,445	\$ 5,224,957	\$ 7,464,224	1.905%		
GCRPC	\$ 18,426,069	\$ 17,618,520	\$ 25,231,212	\$ 36,044,589	9.718%		
H-GAC	\$ 98,096,629	\$ 31,655,138	\$ 90,826,237	\$ 129,751,767	31.384%		
SETRPC	\$ 105,013,221	\$ -	\$ 73,509,255	\$ 105,013,221	25.400%		
اقتصادی اصلاحات کا پروگرام	\$ 80,000,000	\$ 20,000,000	\$ 100,000,000	\$ 100,000,000	1.99%		
ریاستی منصوبے کی ڈیلوری	\$ 22,029,671	\$ 5,507,418	\$ 19,275,962	\$ 27,537,089	0.55%		
ریاستی منصوبہ بندی	\$ 110,148,357	\$ 27,537,089	N/A	\$ 137,685,446	2.74%	7.74%	\$ 388,896,196
ریاستی انتظامیہ	\$ 200,968,600	\$ 50,242,150	N/A	\$ 251,210,750	5.00%		
ریاستی تفویض کاری کا ذیلی میزان	\$ 2,202,967,136	\$ 550,741,784	\$ 1,654,496,406	\$ 2,753,708,920			
تفویض کاری کا کل میزان	\$ 4,473,473,216	\$ 550,741,784	\$ 3,243,850,662	\$ 5,024,215,000	100%	100%	\$ 5,024,215,000

F. فنڈز کا استعمال

1. گھریلو مالک کا معاونتی پروگرام

گھریلو مالکان کا معاونتی پروگرام طوفان ہاروے سے تباہ شدہ مالکان کے زیر قبضہ سنگل فیملی گھر کی بحالی اور تعمیر نو کرے گا۔

HUD میں تجویز کردہ طور پر، GLO گھریلو مالک کے معاونت کے پروگرام کے لیے ریاست کے ماڈل کو استعمال کرے گا۔ GLO رہائشی پروگرامز کے لیے اہل جگہوں کی علاقائی بنیاد پر تنظیم کرے گا اور اس سرگرمی میں متعدد پروگرام کا آغاز کرے گا۔ قریبی ہونے اور نقصان کی نوعیت کی بنیاد پر علاقے تشکیل دیئے جائیں گے۔ تعمیرات کی لاگت اور اقسام، پونٹس کی تعداد، اور دستیاب کل فنڈز کو بھی زیر غور لایا جا سکتا ہے۔ GLO ان علاقوں میں براہ راست پروگرامز کی نگرانی کرے گا یا بیرونی فریقین کی معاونت کو مالکان کی معاونت کی ضروریات مکمل کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ ریاست کے اس ماڈل کے لیے واحد استثنیٰ میں ہوسٹن اور ہیرس کاؤنٹی ہوں گی۔ ہوسٹن اور ہیرس کاؤنٹی اپنے مقامی ہاؤسنگ پروگرامز تشکیل دیں گے اور اپنی علاقائی حدود میں اس کے نفاذ کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔ ہوسٹن شہر اور ہیرس کاؤنٹی میں رہائش پذیر ریاست کے چلائے گئے گھریلو مالکان کی معاونت کے پروگرام میں شرکت کے لیے نااہل ہوں گے۔ جدول 18 میں انتہائی متاثرہ طور پر بیان کردہ جگہوں اور علاقوں کے مطابق مختص وسائل برقرار رکھے جائیں گے۔

GLO ریاستی پروگرام کی متاثرہ COG علاقوں کے ساتھ شراکت داری سے نگرانی کرے گا چونکہ ان کے پاس اپنے علاقوں کی ضروریات کا براہ راست علم ہے۔ COGs سے تمام ضروریات کے جائزوں اور رہائشی گائیڈ لائنز کی ڈویلپمنٹ کے ضمن میں مشاورت کی جائے گی۔

a. مختص کردہ رقم: 1,048,011,316

- i. اسی (80) فیصد فنڈز HUD کے شناخت کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔
- ii. بیس (20) فیصد فنڈز متاثرہ کاؤنٹیز میں ان کے "انتہائی متاثرہ" زپ کوڈز کو منہا کر کے نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔

b. دوبارہ تفویض کاری:

- i. تمام اہل درخواست گزاروں کو مستفید کرنے کے بعد، باقی بچ جانے والے فنڈز بیس (20) فیصد متاثرہ کاؤنٹیز میں ان کے "انتہائی متاثرہ" زپ کوڈز منہا کر کے HUD کے شناخت کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) کے اسی (80) فیصد کو COG علاقے، ہیرس کاؤنٹی، اور ہوسٹن شہر میں وسائل کی ابتدائی تقسیم کا تعین کرنے کے یکساں طریقے کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ تقسیم کے لیے دوبارہ تفویض کر دیئے جائیں گے۔

c. زیادہ سے زیادہ معاونت:

- i. بحالی: مقامی مخلوط بلڈرز کی بولی کی رقم اور \$65,000 سے زائد نہیں۔
- ii. تعمیر نو: حاصل کردہ بلڈرز اور گھر کے سائز پر مبنی بلڈرز کے گھر کے پلانز کی بنیاد پر مقامی مخلوط بلڈرز کی بولی کی رقم۔

d. اہل سرگرمیاں: CDBG-DR؛ HCDA سیکشن 105(a)(1), 105(a)(3-4), 105(a)(8) 105(a)(11), and 105(a)(25) کے تحت مجاز کردہ رہائشی سرگرمیوں میں درج ذیل شامل ہے لیکن اس تک محدود نہیں:

- i. سنگل فیملی مالکان کے زیر قبضہ کی بحالی، تعمیر نو، اور/یا نئی تعمیر؛
- ii. تیار کردہ رہائشی یونٹس کی مرمتی اور تبدیلی
- iii. خطرے میں تخفیف؛
- iv. اونچائی؛
- v. منتقلی کے لیے معاونت
- vi. صرف انہدام؛
- vii. 15 فیصد کی حد کے اندر (جیسے رہائشی مشاورت، قانونی مشاورت، یا ملازمت کی تربیت، ذہنی صحت، اور عمومی صحت کی خدمات) عوامی سروس؛ اور
- viii. متاثرہ سنگل فیملی ہاؤسنگ سٹاک کی بحالی کے ساتھ منسلک دیگر سرگرمیاں۔

e. نااہل سرگرمیاں:

- i. زبردستی قرض کی ادائیگی؛
- ii. آفت سے متاثرہ سیلابی میدان میں منتقل ہونے والے گھرانوں کے لیے ترغیبی ادائیگیاں؛
- iii. وہ پراپرٹیز جس سے آفت کے وقت، یا آفت کے بعد، دوسرے گھر کے طور پر مستفید ہوا جائے، یا جو بحالی کی معاونت یا رہائشی ترغیبات کے لیے اہل نہ ہوں؛
- iv. سیلابی راستے میں موجود گھروں کی بحالی/تعمیر نو؛
- v. ان گھروں کی بحالی/تعمیر نو جن میں:
 1. گھرانے کی مجموعی رقم 120 فیصد AMI یا قومی اوسط سے زیادہ ہو؛
 2. پراپرٹی آفت کے وقت سیلابی میدان میں موجود تھی؛ اور
 3. پراپرٹی کے مالک نے تباہ شدہ املاک کے ضمن میں سیلاب کی انشورینس برقرار نہیں رکھی، حتیٰ کہ جب ایسی انشورینس حاصل کرنا اور برقرار رکھنا مالک کے لیے ضروری نہیں تھا۔
- vi. قومی سیلاب کی انشورینس کے اصلاحات کے ایکٹ 1994 کے 582 سیکشن، بطور ترمیم شدہ (42 U.S.C. 5154a) بیان کرتا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ جگہ میں دستیاب کی گئی وفاقی آفت بحالی کی معاونت کسی فرد کو ذاتی، رہائشی، یا کاروباری پراپرٹی کے کسی نقصان کے لیے "مرمتی، تبدیلی، یا بحالی" کی مد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر اس فرد نے کسی وقت بھی وفاقی سیلاب کی آفت کے لیے امداد اس شرط پر وصول کی ہو کہ وہ قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت پہلے سیلاب کی انشورینس حاصل کرے اور وہ فرد بعد میں ایسی پراپرٹی پر قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت درکار طور پر سیلاب کی انشورینس حاصل کرنے اور برقرار رکھنے میں ناکام ہو جائے۔ یہ پروگرام ایسے فرد کو جو ان تقاضوں پر پورا اترنے میں ناکام ہو جائے اسے پراپرٹی کی مرمتی، تبدیلی، یا بحالی کے لیے آفت کی امداد فراہم نہیں کر سکتا۔
- vii. ہوسٹن شہر اور/یا بیرس کاؤنٹی کی حدود میں موجود گھریلو مالکان ریاستی گھریلو مالکان کی معاونت کے پروگرام میں شرکت کے لیے نااہل ہیں۔

f. معاونت کے لیے اہلیت کا معیار:

- i. طوفان کے وقت گھر مالک کے زیر قبضہ ہونا چاہیے؛
- ii. رہائش کو بنیادی رہائش کے طور پر زیر استعمال ہونا چاہیے؛
- iii. گھر CDBG-DR اہل کاؤنٹی میں موجود ہونا چاہیے؛

- iv. گھر کو طوفان باروے کے نقصان سے متاثرہ ہونا چاہیے؛
- v. مراعات دوہری ہونے کا جائزہ؛
- vi. تمام درخواست کنندگان اور شریک درخواست کنندگان چائلڈ سپورٹ کے لیے حالیہ ہونے چاہیے؛
- vii. درخواست گزار کو ثبوت فراہم کرنے چاہیے کہ پراپرٹی ٹیکسز موجودہ ہیں، ادائیگی کا منظور شدہ پلان ہونا چاہیے، یا حالیہ قوانین کے تحت اسٹنٹی کے قابل ہونا چاہیے؛
- viii. گھر ماحولیاتی طور پر صاف ہونا چاہیے؛
- ix. آفت کی امداد وصول کرنے والے پراپرٹی کے مالکان جو سیلاب کی انشورینس خریدنے کے تقاضے کو متحرک کریں ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ منتقلیہ کو تحریری طور پر سیلاب کی انشورینس حاصل کرنے اور برقرار رکھنے اور ایسی تحریری اطلاعات پراپرٹی کی منتقلی کی دستاویزات میں بطور ثبوت رکھیں، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو منتقلی کرنے والا مالک ذمہ دار متصور ہو سکتا ہے۔
- x. متبادل معاہدہ: امداد حاصل کرنے والے گھریلو مالکان کو مراعات کے دوہرا ہونے کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے طوفان باروے سے متعلقہ مستقبل کے کسی ایوارڈز کے محدود متبادل کے لیے متفق ہونا چاہیے۔
- xi. غیر محفوظ قابل معافی اقراری نوٹ:
1. امداد حاصل کرنے والے گھریلو مالکان کو تین سال کے لیے معاونت شدہ پراپرٹی میں مرکزی رہائش برقرار رکھنے کی ضرورت ہو گی۔ معاونت شدہ رہائش گاہ بطور ضمانت استعمال کرتے ہوئے تین سال کے لیے کوئی کیش آؤٹ ری فنانسنگ، گھریلو سرمائے کے قرضے یا دیگر قرضوں کی اجازت نہیں۔ اس پالیسی کی خلاف ورزی تحریری معاہدے کی شرائط کی دوبارہ ادائیگی کو فعال کر دے گی۔
 2. معاونت شدہ پراپرٹیز کے لیے ٹیکسز ادائیگی اور تعمیل کرنا ہو گی۔ گھریلو مالکان ادائیگی کے پلان پر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ قابل نفاذ طور پر ذیلی وصول کنندہ یا ریاست کو ارسال کرنے کی ضرورت ہو گی۔
 3. معاونت شدہ پراپرٹی پر انشورینس برقرار رہنی چاہیے۔ خطرہ، سیلاب (اگر قابل اطلاق ہو)، اور آندھی (اگر قابل اطلاق ہو) کی تحریری معاہدے کی مدت تک نگرانی کی جائے گی۔
- g. قومی مقاصد: کم- اور درمیانی آمدن اور فوری ضرورت۔ علاقے اور ذیلی وصول کنندہ کے مطابق ان پروگرام کے کم از کم 70 فیصد فنڈز LMI کے لیے اہل پراجیکٹس پر خرچ ہونے چاہیے۔
- h. ہاؤسنگ کی گائیڈ لائنز: GLO اور اس کے ذیلی وصول کنندگان ہاؤسنگ کی کم از کم گائیڈ لائنز بنائیں گے جو اہلیت کے تقاضوں، ہاؤسنگ کی معاونت کی حدود، تعمیرات کے معیارات، رپورٹنگ کے تقاضے، اور دیگر پروگرام کے تقاضوں کے ضمن میں عملی تفصیلات فراہم کرے گا۔ ذیلی وصول کنندگان اپنی گائیڈ لائنز خود تیار کریں گے۔ ہاؤسنگ کی گائیڈ لائنز استعمال سے قبل عوامی رائے کے لیے پوسٹ کی جائیں گی۔ GLO کو تمام گائیڈ لائنز کی منظوری دینی چاہیے۔
- i. ضروریات کا جائزہ: پروگرام کی نگرانی کرنے والے GLO اور ذیلی وصول کنندگان ضروریات کا جائزہ سر انجام دیں گے۔ مقامی ضرورت کے جائزے اور HUD/FEMA ڈیموگرافک IA ڈیٹا کے تجزیے فنڈنگ کا وہ تناسب تجویز کریں گے جو ہر LMI اور غیر LMI اکنامک گروپ کے فائدے کے لیے تعین کیا جانا چاہیے۔ ضروریات کا جائزہ پیش کرنے کے لیے سرگرمیوں، ڈیمو گرافک کے لیے مرتکز شدہ نگرانی کی وصولی، اور خدمت کرنے کے لیے ہدفی علاقوں کا تعین کرے گا۔ ضروریات کے جائزے کو متاثرہ علاقوں کے اندر نقصان سے متاثرہ رہائش کی طرح یکساں آمدن کی بریکٹس کے اندر مقاصد کا تعین کرنا چاہیے۔ مقاصد سے انحراف کے لیے ذیلی وصول کنندہ کی پیش قدمی سے قبل GLO کی جانب سے منظوری دی جانی چاہیے۔

j. اقراری مارکیٹنگ رسائی کا پلان: براہ راست ہاؤسنگ معاونت کے لیے متعلقہ پروگرامز کی نگرانی کرنے والے GLO اور ذیلی وصول کنندگان طے شدہ مارکیٹنگ پالیسیز کے ذریعے مثبت طور پر رہائش کے لیے وقف شدہ ہیں۔ GLO اور ذیلی وصول کنندگان HUD سرٹیفائیڈ ہاؤسنگ کی مشاورتی تنظیموں کے ساتھ مربوط ہوں گے۔ تصدیقی مارکیٹنگ کی کوششوں میں امریکہ محکمہ برائے ہاؤسنگ اور اربن ڈویلپمنٹ (HUD) کے ضابطوں پر مبنی تصدیقی مارکیٹنگ کا پلان شامل ہو گا۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تمام نسلی، تہذیبی، قومی بنیاد، مذہبی، نسلی حیثیت، معذور، "خصوصی ضروریات" اور جنس کے گروپس سے اہل گھریلو مالکان تک کمیونیکیشن اور رسائی کی کوششیں پہنچیں۔

k. ٹائم لائن: تجویز کردہ پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پلان کی HUD کی جانب سے منظوری کے فوری بعد ہے۔ تجویز کردہ تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔

2. مقامی خریداری اور حصول کا پروگرام

مقامی خریداری اور حصول کا پروگرام گھروں کو نقصان پہنچنے سے بچائے گا۔ اس سرگرمی کی نوعیت کی وجہ سے، اس پروگرام کی نگرانی حکومت کے مقامی یونٹس اور اعلیٰ اختیارات کے حامل اداروں کی جانب سے کی جائے گی۔

مقامی خریداری اور حصول کے پروگرام کے تحت، ہر متاثرہ COG کو ہاؤسنگ MOD کے ذریعے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ہر COG ان فنڈز کو حکومت کے مقامی یونٹس کو مختص کرنے کے لیے ڈسٹری بیوشن کا مقامی طریقہ بنائے گا۔ ہوسٹن شہر، بیرس کاؤنٹی، بیرس کاؤنٹی میں موجود مقامی حکومتیں اور ادارے MOD کے ذریعے تفویض کاری وصول پانے کے لیے نااہل ہیں۔

COGs کے ذریعے تشکیل کردہ MOD فنڈز کی ڈسٹری بیوشن کے لیے مقامی اختیار کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ متاثرہ علاقے کے سائز اور طوفان ہاروے کے ہر علاقے پر مختلف اثر اندازی کی بنیاد پر علاقائی حکمت عملی کے ذریعے مقامی کنٹرول طویل المدتی بحالی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔

GLO متاثرہ COGs کو مقامی MODs کی ترقی کے لیے تربیت، تحریری رہنمائی، اور فارمز فراہم کرے گا۔ ہر COG کو ڈسٹری بیوشن کے طریقے سے مطلع کرنے کے لیے GLO کے یونیورسٹی آف ٹیکساس بمقام آسٹن کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے بنائے گئے ڈیٹا سیٹس فراہم کیے جائیں گی۔ ان ڈیٹا سیٹس سے تغیرات قابل مجاز ہوں گے۔ GLO کی جانب سے فراہم کردہ ڈیٹا سیٹس کاؤنٹی، شہر، اور یازپ کوڈ کی سطح کے متعلق معلومات شامل ہو سکتی ہیں۔ درخواست گزار سے مخصوص ڈیٹا دستیاب نہیں ہو گا۔

مقامی MOD کی ہدایات یہ تقاضا کریں گی کہ ہر COG ایک شہری شراکت داری کے عمل کی پیروی کرے۔ ہر COG سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ سماعتیں منعقد کرانے سے قبل کوئی سی بھی عوامی سماعتوں کے نوٹس کو شائع کرے۔ نوٹسز کو علاقے میں تمام اہل کاؤنٹیز کیلئے ریکارڈ پر موجود تمام اخبارات میں شائع کیا جائے گا، COG کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا، اور علاقے میں تمام شہروں اور کاؤنٹیز کو فراہم کیا جائے گا۔ سماعتوں کو لازماً ٹیکساس اوپن میٹنگز ایکٹ (Texas Open Meetings Act) کی مکمل تعمیل کرنا ہو گی۔

حتمی MOD کو GLO میں جمع شدگی سے قبل عوامی تبصرہ کاری کیلئے COG کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا۔ عوامی تبصرہ کاری کا دورانیہ 14 دن سے قطعاً کم نہیں ہو گا۔ ہر تبصرے کا جواب دیا جائے گا اور حتمی MOD میں کی گئی کوئی سی بھی تبدیلیوں کو GLO پر نظر ثانی کیلئے جوابی سیکشن میں نوٹ کیا جائے گا۔ MOD کو HUD کو لائحہ عمل کی GLO کی جمع شدگی سے 60 دن میں مکمل کیا جانا پڑے گا۔

تکمیل پر GLO ہر COG کی جانب سے MOD کی جمع شدگیوں کا جائزہ لے گا اور انہیں منظور کرے گا۔ تمام MODs کا مکمل طور پر جائزہ لیا جائے گا تاکہ یقینی بنایا جائے کہ ہر COG اپنے علاقوں میں فنڈز کو مختص کرنے اور ترجیح دینے کیلئے استعمال ہونے والے طریقے کی ایک تفصیلی وضاحت فراہم کرتا ہے۔ اگر MOD کو منظور نہ کیا جائے، تو GLO COG کو ردعمل فراہم کرے گا، بشمول کوئی سے مخصوص مسائل کے۔

a. مقامی MOD تقاضے:

- i. ہر MOD COG کے عمل کو GLO کی معاونت سے فائدہ پہنچائے گا؛
- ii. فنڈز کو اہل اداروں یا سرگرمیوں کو مختص کرنے کیلئے غیر جانبدارانہ معیار استوار کریں (تقسیم کاری غیر تکمیل شدہ ضرورت پر مبنی ہو، لیکن اس تک محدود نہیں)؛
- iii. شہری شراکت کا عمل:
 - i. ایک شہری شراکت کا منصوبہ تیار کریں؛
 - ii. MOD کو حتمی شکل دینے سے قبل کم از کم دو (2) عوامی سماعتیں سرانجام دیں؛
 - iii. ایک (1) عوامی سماعت کو "عوامی منصوبہ بندی کی ملاقات" کہا جائے گا؛
 - iv. کم از کم 14 دن کیلئے عوامی تبصرے کے دورانیے کی یقین دہانی کریں۔
- iv. MOD کے ذریعے فنڈنگ وصول کرنے والے کسی بھی مقامی ادارے پر CDGB-DR فنڈز میں کم از کم \$ 1,000,000 کا اطلاق کریں۔
- v. یقینی بنائیں کہ فنڈز کی ایک کم از کم شرح فیصد سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹیز اور زپ کوڈز کو مختص کی جاتی ہے؛
- vi. MOD کے ذریعے مقامی ترجیحی کارروائی کو یقینی بنائیں؛
- vii. زائل کردہ معاہداتی فنڈز سے فنڈز کی دوبارہ تفویض اور/یا تکمیل شدہ پراجیکٹس سے رقوم کی بچت خطے کے اندر GLO کی صوابدید ہو گی۔
- viii. 70 فیصد کم - اور متوسط - آمدن والے طبقے کے مالی فائدے کے تقاضے کو پورا کرنے کیلئے ایک منصوبہ؛
- ix. HUD یا GLO کی اہلیت کیلئے درکار تقاضوں سے بڑھ کر کوئی اضافی پیرامیٹرز استوار کریں۔

b. مختص کردہ رقم: \$ 275,620,892

- i. اسی (80) فیصد فنڈز HUD کے شناخت کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔
- ii. بیس (20) فیصد فنڈز کو لازماً متاثرہ کاؤنٹیز، اور کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثر ہونے والے" زپ کوڈز میں غیر تکمیل شدہ ضرورت سے نمٹنا پڑے گا۔

c. اہل ادارے: ابھرتی ہوئی دائرہ اختیار کی طاقت کے ساتھ مقامی حکومت اور اداروں کے یونٹس

d. اہل سرگرمیاں، HCDA سکیشن 105(a)(24-25)، 105(a)(7-8)، 105(a)(1)

- i. خریداریاں؛
- ii. حصول؛
- iii. خریداری یا حصول کی سرگرمیوں کے ساتھ نقل مکانی میں معاونت؛
- iv. خریداری یا حصول کی سرگرمیوں کے ساتھ ڈاؤن پیمینٹ میں معاونت؛
- v. صرف انہدام؛

- .vi خاندانوں کو سیلابی میدانوں سے باہر نقل مکانی کرانے کیلئے مختص سرگرمیاں؛
- .vii 15 فیصد کی حد (مثلاً رہائش، مشاورت، قانونی مشاورت، نوکری کی تربیت، ذہنی صحت اور عام طبی خدمات)؛
- .viii FEMA کے خطرہ گھٹانے کیلئے گرانٹ کے پروگرام (FEMA Hazard Mitigation Grant Program (HMGP)) میں خرچ کا حصہ
- .e نابل سرگرمیاں: آفت سے متاثرہ سیلابی میدان میں منتقل ہونے والے گھرانوں کے لیے ترغیبی ادائیگیاں۔ ہوسٹن شہر اور/یا ہیرس کاؤنٹی کی حدود میں ہونے والی سرگرمیاں پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے نابل ہیں۔
- .f پروگرام کی ہدایات: ہر ذیلی وصول کنندہ CDBG-DR کے تقاضوں اور ضوابط کی مناسبت سے زیادہ سے زیادہ معاونتی رقم، ٹارگٹ کے علاقے کے مقامات، اور اضافی اہلیت کے تقاضوں کا تعین کرنے کیلئے ہدایات تیار کرے گا۔ استعمال سے قبل ہدایات کو لازماً عوامی تبصرے کیلئے پوسٹ کیا جانا ہو گا۔ GLO کو تمام گائیڈ لائنز کی منظوری دینی چاہیے۔
- .g قومی مقاصد: کم - اور متوسط - آمدن، کچی آبادیوں/مخدوش علاقوں، فوری ضرورت، کم/متوسط خریداریاں (LMB/low/mod buyout)، اور کم / متوسط طبقے کو ترغیبات
- .h ٹائم لائن: تجویز کردہ پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پلان کی HUD کی جانب سے منظوری کے 30 دن بعد ہے۔ تجویز کردہ تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔

3. گھر کے مالک کو رقم لوٹانے کا پروگرام

GLO ان فنڈز کیلئے درخواست سے قبل کسی بنیادی جائیداد پر مرمتوں کیلئے گھروں کے مالکان کو درپیش آنے والے جائز اخراجات کیلئے انہیں رقم لوٹانے کا پروگرام جاری کرے گا۔ \$50,000 فی گھرانے تک کی رقم لوٹائی جا سکتی ہے۔

- a. مختص کردہ رقم: \$ 100,000,000
- i. اسی (80) فیصد فنڈز HUD کے شناخت کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔
- ii. بیس (20) فیصد فنڈز کو لازماً متاثرہ کاؤنٹیز، اور کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثر ہونے والے" زپ کوڈز میں غیر تکمیل شدہ ضرورت سے نمٹنا پڑے گا؛
- iii. یہ پروگرام ابتدائی طور پر کم - اور متوسط - آمدن والے (LMI) گھرانوں کو دستیاب کیا جائے گا۔
- b. دوبارہ تفویض کاری:
- i. بیس (20) متاثرہ کاؤنٹیز اور کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثرہ" زپ کوڈز کے اندر کوئی سے بقایا فنڈز کو قابل اطلاق علاقے کیلئے اسی (80) فیصد HUD کے شناخت کردہ "سب سے زیادہ متاثرہ اور مصیبت زدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں دوبارہ تفویض کیا جائے گا؛
- ii. کوئی سے بھی بقایا فنڈز کو 80 فیصد HUD کے شناخت کردہ "سب سے زیادہ متاثرہ اور مصیبت زدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں دوبارہ تقسیم کیلئے COG علاقوں میں دوبارہ مختص کیا جائے گا۔

c. زیادہ سے زیادہ عطا کردہ رقم: \$ 50,000

d. اہل سرگرمیاں، HCDA سیکشن (4)(a)105:

i. گھروں کے مالکان پر ان فنڈز کے اطلاق سے قبل کسی بنیادی رہائش گاہ پر مرمتوں کیلئے عائد ہونے والے اخراجات۔

e. نااہل سرگرمیاں:

- i. زبردستی قرض کی ادائیگی؛
- ii. آفت سے متاثرہ سیلابی میدان میں منتقل ہونے والے گھرانوں کے لیے ترغیبی ادائیگیاں؛
- iii. وہ پراپرٹیز جس سے آفت کے وقت، یا آفت کے بعد، دوسرے گھر کے طور پر مستفید ہوا جائے، یا جو بحالی کی معاونت یا رہائشی ترغیبات کے لیے اہل نہ ہوں؛
- iv. سیلاب کی راہ میں موجود گھروں کی بحالی/تعمیر نو؛
- v. ان گھروں کی بحالی/تعمیر نو جن میں:

1. گھرانے کی مجموعی رقم 120 فیصد AMI یا قومی اوسط سے زیادہ ہو؛
2. پراپرٹی آفت کے وقت سیلابی میدان میں موجود تھی؛ اور
3. پراپرٹی کے مالک نے تباہ شدہ املاک کے ضمن میں سیلاب کی انشورینس برقرار نہیں رکھی، حتیٰ کہ جب ایسی انشورینس حاصل کرنا اور برقرار رکھنا مالک کے لیے ضروری نہیں تھا۔

- i. قومی سیلاب کی انشورینس کے اصلاحات کے ایکٹ 1994 کے 582 سیکشن، بطور ترمیم شدہ (42 U.S.C. 5154a) بیان کرتا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ جگہ میں دستیاب کی گئی وفاقی آفت بحالی کی معاونت کسی فرد کو ذاتی، رہائشی، یا کاروباری پراپرٹی کے کسی نقصان کے لیے "مرمتی، تبدیلی، یا بحالی" کی مد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر اس فرد نے کسی وقت بھی وفاقی سیلاب کی آفت کے لیے امداد اس شرط پر وصول کی ہو کہ وہ قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت پہلے سیلاب کی انشورینس حاصل کرے اور وہ فرد بعد میں ایسی پراپرٹی پر قابل نفاذ وفاقی قانون کے تحت درکار طور پر سیلاب کی انشورینس حاصل کرنے اور برقرار رکھنے میں ناکام ہو جائے۔ یہ پروگرام ایسے فرد کو جو ان تقاضوں پر پورا اترنے میں ناکام ہو جائے اسے پراپرٹی کی مرمتی، تبدیلی، یا بحالی کے لیے آفت کی امداد فراہم نہیں کر سکتا۔
- ii. ہوسٹن شہر اور/یا بیرس کاؤنٹی کی حدود میں رہنے والے گھریلو مالکان اس پروگرام میں شرکت کے لیے نااہل ہیں۔

f. معاونت کے لیے اہلیت کا معیار:

- i. طوفان کے وقت گھر مالک کے زیر قبضہ ہونا چاہیے؛
- ii. رہائش کو بنیادی رہائش کے طور پر زیر استعمال ہونا چاہیے؛
- iii. گھر CDBG-DR اہل کاؤنٹی میں موجود ہونا چاہیے ماسوائے ہوسٹن شہر اور/یا بیرس کاؤنٹی کی حدود میں موجود گھر؛
- iv. گھر کو طوفان ہاروے کے نقصان سے متاثرہ ہونا چاہیے؛
- v. مراعات دوہری ہونے کا جائزہ؛
- vi. تمام درخواست کنندگان اور شریک درخواست کنندگان چائلڈ سپورٹ کے لیے حالیہ ہونے چاہیے؛
- vii. درخواست گزار کو لازماً ثبوت فراہم کرنا ہو گا کہ تمام جائیدادی ٹیکسز موجودہ ہیں، ان میں ایک منظور شدہ ادائیگی کا منصوبہ ہے، یا وہ موجودہ قوانین کے تحت ایک استثناء کی اہلیت رکھتے ہیں۔

- viii. گھر ماحولیاتی طور پر صاف ہونا چاہیے؛
- ix. آفت کی امداد وصول کرنے والے پراپرٹی کے مالکان جو سیلاب کی انشورینس خریدنے کے تقاضے کو متحرک کریں ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ منتقلیہ کو تحریری طور پر سیلاب کی انشورینس حاصل کرنے اور برقرار رکھنے اور ایسی تحریری اطلاعات پراپرٹی کی منتقلی کی دستاویزات میں بطور ثبوت رکھیں، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہو جائے تو منتقلی کرنے والا مالک ذمہ دار متصور ہو سکتا ہے۔
- x. متبادل معاہدہ: امداد حاصل کرنے والے گھریلو مالکان کو مراعات کے دوہرا ہونے کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے طوفان ہاروے سے متعلقہ مستقبل کے کسی ایوارڈز کے محدود متبادل کے لیے متفق ہونا چاہیے۔ معاونت یافتہ گھریلو مالکان کو دوہری معاونت کی دوبارہ ادائیگی پر متفق ہونا چاہیے اگر وہ بعد میں یکساں مقصد کے لیے دیگر آفاقی معاونت وصول پاتے ہیں۔
- xi. غیر محفوظ قابل معافی اقراری تحریری معاہدہ:
- i. معاونت یافتہ گھروں کے مالکان سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ تین (3) سال کیلئے معاونت یافتہ جائیداد میں بنیادی رہائش برقرار رکھیں۔ کیش آؤٹ ری فنانشنگ، گھر رہن پر رکھوانے کے قرضے یا پھر معاونت یافتہ رہائش کو استعمال کرنے والے کوئی سے قرضوں کو بطور گروی رکھوانے کیلئے استعمال کرنے کے طور پر تین (3) سال کیلئے اجازت یافتہ نہیں۔ اس پالیسی کی خلاف ورزی نوٹ کی واپسی کی شرائط کو فعال کرے گی۔
- ii. ٹیکسز کو ادا کیا جانا ہے اور معاونت یافتہ جائیدادوں کیلئے انہیں درست حالت میں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے گھروں کے مالکان ادائیگی کے منصوبے پر ہوں، لیکن اسے ذیلی وصول کنندہ کو جمع کرائے جانے کی ضرورت ہے۔
- iii. انشورنس کو لازماً معاونت یافتہ جائیداد پر برقرار رکھنا ہے۔ قدرتی آفت، سیلاب (اگر قابل اطلاق ہو)، اور آندھی (اگر قابل اطلاق ہو) کی تین سالہ مدت کیلئے نگرانی کی جائے گی۔

g. قومی مقصد: کم۔ اور درمیانی آمدن اور فوری ضرورت۔

h. ٹائم لائن: تجویز کردہ پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پلان کی HUD کی جانب سے منظوری کے فوری بعد ہے۔ تجویز کردہ تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔

4. انسداد بے گھری کا پروگرام

GLO اور دیگر ریاستی ایجنسیز یا غیر منفعتی ادارے جو بے گھری کے انسداد کے کاموں میں تجربہ رکھتے ہوں، انسداد بے گھری کا منصوبہ جاری کریں گے۔ پروگرام تین بنیادی سرگرمیوں پر مشتمل ہو گا جن کا واحد مقصد خطے میں ہاروے طوفان کے بعد بے گھری کی روک تھام ہو گا۔ یہ پروگرام کم - اور متوسط - آمدن والے گھروں تک ہی محدود ہو گا۔

a. پروگرام کیلئے مختص کردہ رقم: \$ 50,000,000

i. اسی (80) فیصد فنڈز HUD کے شناخت کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔

ii. بیس (20) فیصد فنڈز کو لازماً متاثرہ کاؤنٹیز، اور کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثر ہونے والے" زپ کوڈز میں غیر تکمیل شدہ ضرورت سے نمٹنا پڑے گا۔

b. اہل سرگرمیاں، HCDA سیکشن 105(a)(8) اور 105(a)(20) :

i. قلیل المدتی مارگیج کی معاونت - قلیل المدتی مارگیج کی معاونت جو کہ LMI گھرانوں کو اپنی بنیادی

رہائش گاہ پر مارگیج کی ادائیگیوں میں معاونت کیلئے \$10,000 تک فراہم کرے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ متاثرہ علاقوں میں مارگیج شدہ گھروں کو ضبط کر لینے یا درندہ صفت انداز میں کم مالیت پر

خریدنے کے عمل کی روک تھام کی جائے اور یقینی بنایا جائے کہ گھرانے بے گھری کے منڈلاتے ہوئے خطرے کے بغیر بحالی کی راہ پر گامزن رہ سکیں۔ درخواست گزاروں کو اہل ہونے کیلئے لازماً مارکیٹ کی ادائیگیوں سے قاصر ہونا ہو گا۔

.ii سہولیات میں معاونت - سہولیات (بجلی پانی گیس) میں معاونت کا پروگرام کم - اور متوسط - آمدن والے گھرانوں کو سہولیات کی فوری ضرورت پوری کرنے کیلئے \$1,000 تک معاونت فراہم کرے گا۔ سہولیات میں معاونت کے پروگرام میں بجلی، گیس، نکاسی کا پانی، پانی، اور دیگر یوٹیلیٹی بلز اور جمع شدگیاں شامل ہو سکتی ہیں۔

.iii کرایہ داری کی بنیاد پر کرائے میں معاونت - کرایہ داری کی بنیاد پر کرائے میں معاونت کم - اور متوسط - آمدن والے رہائش کیلئے ضرورت مند گھرانوں کو کرائے میں معاونت فراہم کرے گی۔ اس پروگرام میں سیکیورٹی اور یوٹیلیٹی بلز کی جمع شدگی تک 24 ماہ تک کرائے کی معاونت شامل ہو سکتی ہے۔ یہ پروگرام HUD - کے شائع کردہ منصفانہ مارکیٹ کا کرایہ (Fair Market Rent (FMR)) استعمال کرتے ہوئے سرانجام دیا جائے گا، اور فی گھرانہ زیادہ سے زیادہ عطا کردہ رقم FMR سے منسلک ہو گی۔

.c اہلیت کا معیار: پروگرام کی ہدایات میں مزید رہنمائی دستیاب ہو گی۔

.d نااہلیت: بیرس کاؤنٹی اور/یا ہوسٹن شہر کی حدود میں ہونے والی سرگرمیاں نااہل ہیں۔

.e قومی مقصد: کم اور متوسط آمدن

ٹائم لائن: تجویز کردہ پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پلان کی HUD کی جانب سے منظوری کے فوری بعد ہے۔ تجویز کردہ تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔

5. ارزاں کرائے کا پروگرام

GLO ارزاں کرائے کا پروگرام جاری کرے گا۔ پروگرام کو ہاروے طوفان سے متاثرہ علاقوں میں ارزاں، کثیر خاندانی رہائش کے پراجیکٹس کی بحالی، دوبارہ تعمیر اور نئی تعمیر کیلئے فنڈز فراہم کرنے کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

a. سرگرمی کیلئے مختص کردہ رقم: \$ 250,000,000

i. اسی (80) فیصد فنڈز HUD کے شناخت کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔

ii. بیس (20) فیصد فنڈز کو لازماً متاثرہ کاؤنٹیز، اور کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثر ہونے والے" زپ کوڈز میں غیر تکمیل شدہ ضرورت سے نمٹنا پڑے گا۔

b. زیادہ سے زیادہ عطا کردہ رقم: \$25 ملین فی تعمیر

c. اہل درخواست گزاران: انفرادی طور پر کام کرنے والے، یا محدود شراکت داری (Limited Partnership (LP))، یا محدود ذمہ داری والی کارپوریشن (Limited Liability Corporation (LLC))

- i. برائے منفعت ڈویلپرز / قرض داران؛
- ii. عوامی رہائش کے اہلکار؛
- iii. مقامی حکومتوں کی اکائیاں؛
- iv. غیر منفعتی ڈویلپرز / قرض داران.

d. اہل سرگرمی HCDA سیکشن 105(a)(1), 105(a)(4), 105(a)(9), 105(a)(11), اور 105(a)(14) (15):

i. ارزاں کثیر خاندانی ہاؤسنگ پراجیکٹس کی بحالی، دوبارہ تعمیر یا نئی تعمیر۔

e. اہلیت کا معیار:

- i. تعمیر کو لازماً CDBG-DR تقاضوں پر پورا اترنا ہو گا؛
- ii. تعمیر کو لازماً CDBG-DR کی اہلیت والی کاؤنٹی میں واقع ہونا پڑے گا ماسوائے بیرس کاؤنٹی اور/یا ہوسٹن شہر کی حدود میں ہونے والی تعمیرات؛
- iii. کم از کم 51 فیصد یونٹس کو علاقے کی وسطانیے کی خاندانی آمدن (Area Median Family Income (AMFI)) یا اس سے کم کمانے والے کم - یا متوسط - آمدن (LMI) 80 فیصد یا اس سے کم آمدن والے افراد کیلئے کم قیمت کی مدت کے بیس (20) یا زائد سالوں کیلئے ارزاں کرایوں پر محدود کرنا پڑے گا۔
- iv. کم قیمت کرایوں کو ہائی HOME انویسٹمنٹ پارٹنرشپ (High HOME Investment Partnership) (HOME) کے کرایوں اور پہلے سے موجود دیگر لینڈ یوز رسٹرکشن ایگریمنٹ (Land Use Restriction Agreement (LURA)) کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر قابل اطلاق ہوں۔
- v. جائیداد کی اقسام: کثیر خاندانی کرائے کی رہائش گاہ کی تعمیر ایک مالک کے زیر انتظام آٹھ یا زائد یونٹس ہے۔
- vi. ارزاں کرائے کی رہائش کا فنڈنگ کی دستیابی کا نوٹس (The Affordable Rental Program Notice of Funding (NOFA)) درخواست کے عمل اور قبولیت کے دورانیے، حد کے معیار (بشمول قابل اطلاق بلڈنگ کوڈز)، انتخاب کے معیار اور عطا کرنے کے عمل کو واضح طور پر استوار کرے گا۔
- vii. پراجیکٹ کی تعمیر کو ٹھیکے کے مؤثر ہونے کی تاریخ کے 18 ماہ کے اندر اندر پورا کرنا پڑے گا تاوقتیکہ کسی اور انداز میں اس کی توسیع کر دی جائے۔

f. نااہلیت: ہوسٹن شہر اور بیرس کاؤنٹی کی حدود میں موجود تعمیرات اس کے لیے نااہل ہیں۔
g. قومی مقصد: کم - اور متوسط - آمدن

h. وقت کا دورانیہ تجویز کردہ پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پلان کی HUD کی جانب سے منظوری کے فوری بعد ہے۔ تجویز کردہ تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔

6. حفاظتی پروگرام کیلئے جزوی مرمت اور ناگزیر توانائی

حفاظت کیلئے جزوی مرمت اور ناگزیر توانائی (The Partial Repair and Essential Power for Sheltering (PREPS)) فی الحال FEMA عوامی معاونت (PA) (Public Assistance) کے تحت جاری کی جاتی ہے۔ یہ

پروگرام ان گھروں کو فوری، عارضی مرمتیں فراہم کرتا ہے جنہوں نے FEMA کا تصدیق کردہ \$17,000 سے کم کا نقصان اٹھایا ہو۔ PREPS FEMA پروگرام کے لیے اہل درخواست گزاران کا تعین کرتا ہے۔ FEMA نے نومبر 2017 کے اختتام پر FEMA IA معاونت کے لیے درخواست کی مدت بند کر دی ہے۔ بطور PA پروگرام، FEMA اخراجات کے 90 فیصد کا احاطہ کرے گا، اور GLO گھروں میں سرانجام دی جانے والی مرمتوں کا احاطہ کرنے کیلئے اس مختص کردہ رقم کے \$75,000,000 تک کو استعمال کرے گا۔

- a. سرگرمی کیلئے مختص کردہ رقم: \$72,675,000
 - i. اسی (80) فیصد فنڈز HUD کے شناخت کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔
 - ii. بیس (20) فیصد فنڈز کو لازماً متاثرہ کاؤنٹیز، اور کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثر ہونے والے" زپ کوڈز میں غیر تکمیل شدہ ضرورت سے نمٹنا پڑے گا۔
- b. دوبارہ تفویض کاری:
 - i. بیس (20) متاثرہ کاؤنٹیز اور کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثرہ" زپ کوڈز کے اندر فنڈز کو اسی (80) فیصد HUD کے شناخت کردہ "سب سے زیادہ متاثرہ اور مصیبت زدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں دوبارہ تفویض کیا جائے گا؛
 - ii. کوئی سے بھی بقایا فنڈز کو 80 فیصد HUD کے شناخت کردہ "سب سے زیادہ متاثرہ اور مصیبت زدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں دوبارہ تقسیم کیلئے COG علاقوں، پیرس کاؤنٹی، اور سٹی آف ہیوسٹن (City of Houston) میں ہوم اونر اسسٹنس پروگرام (Homeowner Assistance Program) کو دوبارہ مختص کیا جائے گا۔
- c. اہل درخواست گزاران: FEMA کی منظور شدہ پراجیکٹ ورک شیٹ۔
- d. اہل سرگرمی: فیڈرل گرانٹ ان ایڈ پروگرام کے حوالے سے درکار نان-فیڈرل شیئر کی ادائیگی: HCDA سیکشن 105 (a)(9)
- e. قومی مقصد: فوری ضرورت۔
- f. وقت کا دورانیہ مجوزہ پروگرام جاری ہے۔ مجوزہ خاتمے کی تاریخ جون 2018 کا اختتام ہے۔

7. مقامی انفراسٹرکچر کا پروگرام

GLO اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ طویل المدتی بحالی کے پروگرام کے حصے کے طور پر، مقامی انفراسٹرکچر اور خطرہ کم کرنے کی کوششیں اہم جزئیات ہیں۔ انفراسٹرکچر کی سرگرمیاں نہ صرف گھروں کی طویل المدتی بحالی اور مرمت مرمت بلکہ کمیونٹیز طویل المدتی بحالی اور برقراریت کیلئے بھی ناگزیر ہیں۔ مقامی انفراسٹرکچر کا پروگرام ہاروے طوفان سے متاثرہ مقامی کمیونٹیز کیلئے قدرتی آفت سے مدد، طویل المدتی بحالی اور انفراسٹرکچر کی مرمت فراہم کرے گا۔ انفراسٹرکچر کی ہر سرگرمی کو لازماً مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ وہ رہائش کی طویل المدتی بحالی اور مرمت میں کس طرح حصہ ڈالتی ہے۔ اس سرگرمی کی نوعیت کی وجہ سے، اس پروگرام کو GLO حکومتوں کی مقامی اکائیوں کو بطور ذیلی وصول کنندگان جاری کرے گا۔

مقامی انفراسٹرکچر پروگرام کے تحت، ہر متاثرہ COG علاقے کو انفراسٹرکچر MOD کے ذریعے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ہر COG حکومت کی مقامی اکائیوں کو فنڈز مختص کرنے کیلئے ایک مقامی MOD تیار کرے گا۔ GLO کو اس مختص کردہ رقم میں دستیاب فنڈز کی حدود کی وجہ سے نقصان زدہ سہولیات کی براہ راست مرمت، FEMA کی اخراجات کی شراکت اور نقصان کی شدت میں کمی، اور پانی اور سیلاب پر قابو پانے کی سہولیات کیلئے انفراسٹرکچر

کو ترجیح دینے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہوسٹن شہر، بیرس کاؤنٹی، بیرس کاؤنٹی میں موجود مقامی حکومتیں اور ادارے MOD کے ذریعے تفویض کاری وصول پائے کے لیے نااہل ہیں۔

COGs کے ذریعے تشکیل کردہ MOD فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے مقامی اختیار کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ متاثرہ علاقے کے سائز اور طوفان باروے کے ہر علاقے پر مختلف اثر اندازی کی بنیاد پر علاقائی حکمت عملی کے ذریعے مقامی کنٹرول طویل المدتی بحالی کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔

GLO متاثرہ COGs کو مقامی MODs کی ترقی کے لیے تربیت، تحریری رہنمائی، اور فارمز فراہم کرے گا۔ ہر COG کو ڈسٹری بیوشن کے طریقے سے مطلع کرنے کے لیے GLO کے یونیورسٹی آف ٹیکساس بمقام اسٹن کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے بنائے گئے ڈیٹا سیٹس فراہم کیے جائیں گی۔ ان ڈیٹا سیٹس سے تغیرات قابل مجاز ہوں گے۔ GLO کی جانب سے فراہم کردہ ڈیٹا سیٹس کاؤنٹی، شہر، اور/یا زپ کوڈ کی سطح کے متعلق معلومات شامل ہو سکتی ہیں۔

مقامی MOD کی ہدایات یہ تقاضا کریں گی کہ ہر COG ایک شہری شراکت داری کے عمل کی پیروی کرے۔ ہر COG سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ سماعتیں منعقد کرانے سے قبل کوئی سی بھی عوامی سماعتوں کے نوٹس کو شائع کرے۔ نوٹسز کو علاقے میں تمام اہل کاؤنٹیز کیلئے ریکارڈ پر موجود تمام اخبارات میں شائع کیا جائے گا، COG کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا، اور علاقے میں تمام شہروں اور کاؤنٹیز کو فراہم کیا جائے گا۔ سماعتوں کو لازماً ٹیکساس اوپن میٹنگز ایکٹ کی مکمل تعمیل کرنا ہو گی۔

حتمی MOD کو GLO میں جمع شدگی سے قبل عوامی تبصرہ کاری کیلئے COG کی ویب سائٹ پر پوسٹ کیا جائے گا۔ عوامی تبصرہ کاری کا دورانیہ 14 دن سے قطعاً کم نہیں ہو گا۔ ہر تبصرے کا جواب دیا جائے گا اور حتمی MOD میں کی گئی کوئی سی بھی تبدیلیوں کو GLO پر نظر ثانی کیلئے جوابی سیکشن میں نوٹ کیا جائے گا۔ MOD کو HUD کو لائحہ عمل کی GLO کی جمع شدگی سے 60 دن میں مکمل کیا جانا پڑے گا۔

تکمیل پر GLO ہر COG کی جانب سے MOD کی جمع شدگیوں کا جائزہ لے گا اور انہیں منظور کرے گا۔ تمام MODs کا مکمل طور پر جائزہ لیا جائے گا تاکہ یقینی بنایا جائے کہ ہر COG اپنے علاقوں میں فنڈز کو مختص کرنے اور ترجیح دینے کیلئے استعمال ہونے والے طریقے کی ایک تفصیلی وضاحت فراہم کرتا ہے۔ اگر MOD کو منظور نہ کیا جائے، تو GLO COG کو ردعمل فراہم کرے گا، بشمول مخصوص مسائل کے۔

a. مقامی MOD تقاضے:

- i. ہر COG MOD کے عمل کو GLO کی معاونت سے فائدہ پہنچائے گا؛
- ii. فنڈز کو اہل اداروں یا سرگرمیوں کو مختص کرنے کیلئے غیر جانبدارانہ معیار استوار کریں (تقسیم کاری غیر تکمیل شدہ ضرورت پر مبنی ہو، لیکن اس تک محدود نہیں)؛
- iii. شہری شراکت کا عمل:
 1. ایک شہری شراکت کا منصوبہ تیار کریں؛
 2. MOD کو حتمی شکل دینے سے قبل کم از کم دو (2) عوامی سماعتیں سرانجام دیں؛
 3. ایک (1) عوامی سماعت کو "عوامی منصوبہ بندی کی ملاقات" کہا جائے گا؛
 4. کم از کم 14 دن کیلئے عوامی تبصرے کے دورانے کی یقین دہانی کریں۔
- iv. MOD کے ذریعے فنڈنگ وصول کرنے والے کسی بھی مقامی ادارے پر CDGB-DR فنڈز میں کم از کم \$ 100,000 کا اطلاق کریں۔

- v. یقینی بنائیں کہ فنڈز کی ایک کم از کم شرح فیصد سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹیز اور زپ کوڈز کو مختص کی جائے۔
- vi. MOD کے ذریعے مقامی ترجیحی کاروائی کو یقینی بنائیں؛
- vii. زائل کردہ معاہداتی فنڈز سے فنڈز کی دوبارہ تفویض اور/یا تکمیل شدہ پراجیکٹس سے رقوم کی بچت خطے کے اندر GLO کی صوابدید ہو گی۔
- viii. 70 فیصد کم - اور متوسط - آمدن والے طبقے کے مالی فائدے کے تقاضے کو پورا کرنے کیلئے ایک منصوبہ؛
- ix. HUD یا GLO کی اہلیت کیلئے درکار تقاضوں سے بڑھ کر کوئی اضافی پیرامیٹرز استوار کریں۔

b. مختص کردہ رقم: \$ 413,431,338

- i. اسی (80) فیصد فنڈز کو قابل اطلاق علاقے کیلئے لازماً HUD کے شناخت کردہ "سب سے زیادہ متاثرہ اور مصیبت زدہ" علاقوں (محض کاؤنٹیز) میں غیر تکمیل شدہ ضرورت سے نمٹنا پڑے گا۔
- ii. بیس (20) فیصد فنڈز کو لازماً بقایا متاثرہ کاؤنٹیز میں لازماً عدم تکمیل شدہ ضروریات سے نمٹنا پڑے گا۔

c. اہل ادارے: مقامی حکومت (شہروں اور کاؤنٹیز) کی اکائیاں

- d. اہل سرگرمیاں: CDBG-DR کے تحت اجازت یافتہ تمام سرگرمیاں HCDA؛ سیکشن (1-5)(a) 105
- i. سیلاب پر قابو اور نکاسی کی مرمت اور بہتریاں، جن میں طوفانی پانی کی تنظیم کے نظام کی تیاری یا بحالی شامل ہے۔
- ii. انفراسٹرکچر کی بحالی (جیسا کہ پانی یا نالیوں کی سہولیات، گلیاں، جنریٹرز کی فراہمی، کچرے کو ہٹانا، پل، وغیرہ)؛
- iii. عوامی یا ذاتی ملکیت کی، تجارتی یا صنعتی عمارتوں کی تباہی، بحالی، اور کوڈ کا اطلاق؛
- iv. معاشی ترقی (جیسا کہ مائیکرو اینٹرپرائز اور چھوٹے کاروباروں کی معاونت، تجارتی بحالی، اور خصوصی معاشی ترقی کی سرگرمیوں، بشمول ان کاروباروں کو معاونت میں ترجیح دینا جو ایک چھوٹے کاروبار کی تعریف پر پورے اترتے ہیں)؛
- v. عوامی سروس (جیسا کہ نوکری کی تربیت اور ملازمت کی خدمات، طبی نگہداشت، نگہداشت اطفال اور انسداد جرائم 15 فیصد کی حد کے اندر اندر)۔

e. نااہل سرگرمیاں:

- i. CDBG-DR فنڈز کسی ڈیم یا لیوی کو عمارت کی اصل باقیات جو قدرتی آفت پیش آنے سے قبل موجود تھیں، ان سے بڑھانے کیلئے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ CDBG-DR فنڈز برائے لیویز اور ڈیمز درکار ہوتے ہیں تاکہ:
1. یو ایس آرمی کور آف انجینئرز نیشنل لیوی ڈیٹابیس یا نیشنل انوینٹری آف ڈیمز میں ایسی تعمیرات کے متعلق اندراجات کو رجسٹر کیا اور برقرار رکھا جائے۔
 2. یقینی بنایا جائے کہ عمارت یو ایس آرمی کور آف انجینئرز 84-99 PL نیشنل ری ہیبیلیٹیشن پروگرام (سیلاب پر قابو پانے کیلئے غیر وفاقی پراجیکٹس کیلئے بحالی میں معاونت)؛

3. یقینی بنائیں کہ عمارت FEMA نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام سے الحاق شدہ ہے؛
4. فائل کی وہ دستاویز برقرار رکھیں جو سیلاب پر قابو پانے کی عمارت کی فنڈنگ سے قبل خدشے کی جانچکاری دکھاتی ہو اور اس بارے میں دستاویز کہ سرمایہ کاری میں خدشے کو گھٹانے کے اقدامات شامل ہیں۔
- ii. فنڈز کو کسی بھی مقصد کیلئے کسی ذاتی ملکیت والی سہولت کی معاونت کیلئے استعمال نہیں کیا جا سکتا؛
- iii. حکومت کی عام کاروائی کیلئے استعمال ہونے والی عمارات اور سہولیات (مثلاً سٹی ہالز، عدالتیں، اور ہنگامی کاروائی کے سینٹرز)؛
- iv. کسی بھی آفت سے بحالی کی امداد پر قدرتی آفت سے پیش آنے والے آفت کے کسی حصے کیلئے غور نہیں کیا جائے گا جو فیڈرل ایمرجینسی مینجمنٹ ایجنسی، آرمی کور آف انجینیئرز ((USACE، انشورنس، یا کسی اور ذریعے کی جانب سے اس لائحہ عمل میں وضع کردہ مالی فائدوں کے دوہرا ہونے کے خلاف پابندیوں میں جزوی طور پر آنے والے نقصان کا ازالہ کیے جانے کے قابل ہو۔ قدرتی آفات کے صدارتی اعلان سے قبل جاری کوئی سرگرمی اہل نہیں قرار پائے گی تاوقتیکہ آفت نے براہ راست طور پر مذکورہ پراجیکٹ پر اثر ڈالا ہو۔
- v. قانون کے مطابق، (HCD ایکٹ میں بطور (a) 105) کے نوٹ کے تعزیر شدہ)، CDBG-DR فنڈز کی مقدار جو کسی USACE پراجیکٹ میں شامل کی جا سکتی ہے، \$250,000 یا کم ہے۔
- vi. ہیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر کی حدود میں ہونے والی سرگرمیاں اور ہیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر کی حدود میں موجود مقامی حکومتیں نااہل ہیں۔
- f. قومی مقاصد: کم- اور متوسط - آمدن، کچی آبادیوں/مخدوش علاقوں کا خاتمہ اور فوری ضرورت۔
- g. ٹائم لائن: تجویز کردہ پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پلان کی HUD کی جانب سے منظوری کے 30 دن بعد ہے۔ تجویز کردہ تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے چار سال تک ہے۔

8. معاشی بحالی کا پروگرام

ہاروے طوفان کا پیدا کردہ سیلاب اور آندھی کے نقصان لاکھوں رہائشیوں کو متاثر کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، خصوصاً ہزاروں چھوٹے کاروباروں کو، جن میں سے بہت سے خود کو چالو رکھنے کیلئے درکار سرمایہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طوفان کے طویل المدتی اثرات کو ابھی دیکھا جانا باقی ہے۔ وہ کاروبار جو طوفانی میدانوں میں واقع نہیں تھے، مثلاً گھر، زیر سیلاب آگئے تھے۔ علاقوں میں رسائی، بجلی اور لازمی سہولیات نہیں تھیں جس نے سیلاب کی زد میں براہ راست نہ آنے والے کاروباروں کو بعض علاقوں میں تو کئی ہفتوں تک اپنے دروازے کھولنے سے روکے رکھا۔ پوری پوری کمیونٹیز متاثر ہوئی تھیں جن سے بہت سے چھوٹے علاقوں کے کاروباروں کیلئے گاہک بدل گئے۔

پہلی بار، GLO ایک ایسے معاشی بحالی کے پروگرام کا اطلاق کرے گا جو کہ ہاروے طوفان سے متاثر ہونے والے کاروباروں کو ملتوی کردہ قابل معافی قرضوں اور نوکری پیدا کرنے یا کم - اور متوسط - آمدن والے ملازمین کو برقرار رکھنے کے بدلے میں قرضوں کے ذریعے نگرانی کی معاونت فراہم کرے گا۔ GLO فنڈز کی دستیابی کے ایک نوٹس کا اجراء کرے گا اور مناسب پس منظر والا فراہم کار (فراہم کاران) منتخب کرے گا کہ ہاروے طوفان سے متاثرہ کاروباروں کی خدمت کرے۔

a. مختص کردہ رقم: \$100,000,000

- i. اسی (80) فیصد فنڈز HUD کے شناخت کردہ "انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں نامکمل ضروریات کا احاطہ کرنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے۔
 - ii. بیس (20) فیصد فنڈز کو لازماً متاثرہ کاؤنٹیز، اور کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثر ہونے والے" زپ کوڈز میں غیر تکمیل شدہ ضرورت سے نمٹنا پڑے گا۔
- b. دوبارہ تفویض کاری:

- i. بیس (20) متاثرہ کاؤنٹیز اور کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثرہ" زپ کوڈز کے اندر فنڈز کو اسی (80) فیصد HUD کے شناخت کردہ "سب سے زیادہ متاثرہ اور مصیبت زدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) میں دوبارہ تفویض کیا جائے گا؛
- ii. کوئی سے بھی بقایا فنڈز COG خطوں میں دوبارہ تقسیم کیلئے 80 فیصد HUD کے شناخت کردہ "سب سے زیادہ متاثرہ اور مصیبت زدہ" علاقوں میں لوکل انفراسٹرکچر پروگرام کو دوبارہ تفویض کیے جائیں گے۔

c - زیادہ سے زیادہ معاونت:

- i. کوئی کاروبار \$250,000 سے زائد وصول نہیں کر سکتا۔

d. اہل سرگرمیاں: معاشی بحالی کی سرگرمیاں جو CDBG-DR کے تحت اجازت یافتہ ہیں، ان میں شامل ہیں، HCDA سیکشن، یا چھوٹے کاروباروں کو دیئے جانے والے قرضے جیسا کہ SBA میں CFR 13 پارٹ 121 میں وضع کردہ ہیں، یا پھر "فارمنگ کی کاروائیوں" میں ملوث کاروبار جو کہ CFR 1400.500 میں وضع کردہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر فارم سروس ایجنسی پر پورے اترتے ہوں۔

e. نااہل سرگرمیاں:

- i. ان کاروباروں کو معاونت جو چھوٹے کاروباروں کے طور پر تعریف کردہ نہیں ہوتے۔
 - ii. کسی ذاتی سہولت کو کوئی معاونت
- f. اہل درخواست گزاران:

- i. CDBG-DR کی اہل کاؤنٹیز میں موجود سماں بزنس؛
- ii. CFR 13 حصہ 121 میں مذکور کردہ طور پر SBA یا "فارمنگ آپریشنز" میں مصروف عمل کاروباری ادارے جو CFR 1400.500 میں مذکور امریکی محکمہ زراعت کے فارم سروس ایجنسی کے معیار پر پورا اترتے ہوں۔

g. قومی مقاصد: کم اور متوسط آمدن

h. ٹائم لائن: تجویز کردہ پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پلان کی HUD کی جانب سے منظوری کے 30 دن بعد ہے۔ تجویز کردہ تاریخ اختتام اس پروگرام کے آغاز سے تین سال تک ہے۔

9. مقامی، علاقائی اور ریاستی منصوبہ بندی

سابقہ ذکر کردہ ریاست کے آفت بحالی اور ردعمل کے پلان میں بہتری کے علاوہ، GLO متاثرہ علاقے میں منصوبہ بندی اور تحقیقات کے نتیجے میں شناخت کردہ بعض پراجیکٹس کی تکمیل کے مقاصد کیلئے کوشاں ہے موجودہ قدرتی آفت کی وسیع نوعیت کی وجہ سے اور اس خطے میں آفات کے بار بار آنے کی نوعیت کی وجہ سے، GLO طویل المدتی بحالی

کو فروغ دینے کیلئے مخصوص مقامی مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ علاقائی لائحہ عمل پر غور کر سکتا ہے۔ باروے طوفان کے بعد منصوبہ بندی کیلئے تحقیقات کا انتخاب کرنے اور انہیں سرانجام دینے کا ایک مؤثر اور کارآمد طریقہ فراہم کرنے کیلئے، GLO ٹیکساس کی عوامی یونیورسٹیز اور/یا وینڈرز کے ساتھ کام کرے گا کہ CDBG-DR فنڈز کے ساتھ تحقیقات سرانجام دے۔ GLO عوامی ملاقاتیں، معلومات کیلئے درخواستیں، سنے کے سیشنز، شامل کرنے کیلئے ایک مقامی کمیونٹی کے سروے کی کارروائی اور تحریری سرویز کا استعمال کرے گا تاکہ منصوبہ بندی کی تحقیقات کیلئے مخصوص ضروریات کا بہتر تعین کیا جا سکے۔ GLO نے ایک ای میل اکاؤنٹ تخلیق کیا ہے اور فعال طور پر کمیونٹیز کو مدعو کر رہا ہے کہ اپنی منصوبہ بندی کی ضروریات جمع کرائیں تاکہ درکار پراجیکٹس کی ایک جامع فہرست شامل کر سکیں۔ جب سرویز مقامی کمیونٹیز سے جمع کر لیے جائیں، تو GLO متاثرہ علاقے میں تحقیق کی ضروریات کی ایک گُل فہرست مرتب کرے گا۔ خطہ بندی کیلئے مواقع پر غور کیا جائے گا اور GLO شناخت کردہ مخصوص کاموں کیلئے تربیت یافتہ ماہرین کی شناخت کرنے کیلئے عوامی یونیورسٹیز اور/یا وینڈرز کے ساتھ کام کرے گا۔ یہ عمل اور منصوبہ بندی کے فنڈز کی دستیابی خطے کے باہمی تعاون اور منصوبہ بندی کے ذریعے طریقوں کو ایسے درجے پر معیار کے مطابق بنائیں گے جو ٹیکساس میں CDBG-DR کے ذریعے ابھی حاصل نہیں کیا گیا۔

GLO ایک سے زیادہ سروے کے ذریعے مقامی اور خطے کی ترجیحات کا تعین کرنے کیلئے مقامی حکومتی اداروں کے ذریعے رد عمل حاصل کر سکتا ہے۔ تحقیقات میں سیلاب پر قابو، نکاسی میں بہتری، مضبوط رہائش کے حل، بے گھری، (ووٹینج کی) زیادتی سے بچاؤ، معاشی ترقی، انفراسٹرکچر میں بہتری یا باروے طوفان سے بحالی کو بڑھانے کی دیگر کوششیں، مستقبل کے نقصانات کو کم کرنا، اور بحالی کی جامع کوششوں کیلئے منصوبے استوار کرنا شامل ہو سکتا ہے، لیکن تحقیقات انہی چیزوں تک محدود نہیں۔ اس لائحہ عمل میں مزید ترامیم کے ذریعے، GLO ان منصوبہ بندی کے فنڈز کے ایک حصے کو ایک مسابقتی درخواستی کارروائی کے لیے دستیاب بنا سکتا ہے جس سے مقامی حکومتی اداروں کو اپنی منتخب کردہ مخصوص تحقیقات کیلئے درخواست دینے کی اجازت ملے گی۔ نیز، مزید ترامیم ان منصوبہ بندی کے فنڈز کو منصوبہ بندی کے عمل کے ذریعے غور کردہ یا تیار کردہ مخصوص پراجیکٹس کو سرانجام دینے کیلئے دیگر جائز اخراجات میں تبدیل کر سکتی ہیں۔

جن تحقیقات کو مکمل کیا جانا ہے ان کی تجویز کمیونٹیز دے سکتی ہیں لیکن منصوبہ بندی کے تمام فنڈز GLO عنایت کرے گا۔ GLO منصوبہ بندی کی تحقیقات کے متعلق حتمی سفارشات دے گا اور مقاصد، منصوبہ بندی کی کوششوں کے پیرامیٹرز، اور جس قسم کا ڈیٹا وہ (تحقیقات) جمع کریں گی، اس کی شناخت کرنے کیلئے عوامی یونیورسٹیز اور/یا وینڈرز کے ساتھ باہمی تعاون کرے گا۔ یہ نقطہ نظر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ مختلف علاقوں میں کی جانے والی منصوبہ بندی کی تحقیقات کو جمع، اور ان کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ڈیٹا جمع کرنے میں یکسانیت اور درستی حاصل ہو۔

ریاست ایک محفوظ ڈیٹا بیس سسٹم تیار کرے گی اور اسے برقرار رکھے گی جو کہ گزشتہ قدرتی آفات کے اثر کو دستاویز بند کرتا ہو اور قدرتی آفات کے خدشات کے ڈیٹا کی تجزیاتی جانچکاری فراہم کرتا ہو، جس میں مستقبل کے شدید موسمیاتی واقعات اور دیگر قدرتی آفات کے اثر کا پیشگی اندازہ شامل ہے۔ اس سے ریاست کو اپنی قدرتی آفات کی معلومات، شماریاتی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور قدرتی آفات کے ردعمل اور ان سے بحالی میں حصہ رکھنے والی متعلقہ ریاستی ایجنسیز کے درمیان مواصلت، باہمی کام، اور معلومات جمع کرنے کا نظام استوار کرنے کی اہلیت ملے گی۔ نیز، جمع شدہ ڈیٹا ریاست اور مقامی کمیونٹیز دونوں کو مسائل کے ایسے ممکنہ حل تیار کرنے میں معلومات فراہم کرے گا جو کہ ریاست ٹیکساس میں مزید سخت جان عمارتی نظام تخلیق کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔

a. مختص کردہ رقم: \$137,685,446

- i. اسی (80) فیصد فنڈز کو لازماً HUD کے شناخت کردہ "سب سے زیادہ متاثرہ اور مصیبت زدہ" علاقوں (کاؤنٹیز اور زپ کوڈز) کو فائدہ دینا ہو گا۔
- ii. بیس (20) فیصد فنڈز کو لازماً متاثرہ کاؤنٹیز منفی ان کے "سب سے زیادہ متاثر ہونے والے" زپ کوڈز میں غیر تکمیل شدہ ضرورت سے نمٹنا پڑے گا۔

- b. اہل سرگرمیاں: اہل منصوبہ بندی، شہری ماحولیاتی ڈیزائن، اور پالیسی کی منصوبہ بندی کی تنظیم کی صلاحیت پیدا کرنے والی سرگرمیاں جیسا کہ 24 CFR 570.205(a)(12) HCDA میں مندرج ہیں۔
- c. نااہل سرگرمیاں: ہوسٹن شہر، ہیرس کاؤنٹی کی حدود اور ہیرس کاؤنٹی میں موجود مقامی حکومتوں کی پلاننگ کی سرگرمیاں۔
- d. ٹائم لائن: تجویز کردہ پروگرام کی تاریخ آغاز اس ایکشن پلان کی HUD کی جانب سے منظوری کے فوری بعد ہے۔ مجوزہ خاتمے کی تاریخ پروگرام کی تاریخ آغاز سے چھ سال بعد ہے۔

10. انتظامی فنڈز

ریاستی انتظامی اخراجات بشمول ذیلی وصول کنندہ کی انتظامی لاگت پانچ (5) فیصد، \$251,210,750 سے نہیں بڑھیں گے۔ انتظامی اور منصوبہ بندی کی اخراجات 20 فیصد سے نہیں بڑھیں گے۔ (d) 42 U.S.C. 5306 اور 24 CFR (i)(1)(a) \$570.489 اور (iii) کے تحت وضع کردہ سفارشات اس حد تک لاگو نہیں ہوں گی کہ وہ انتظامی اخراجات کا احاطہ کریں اور \$100,000 سے بڑھنے والے انتظامی اخراجات کیلئے ہر ڈالر کی مطابقت درکار کریں گی۔ 24 CFR (a)(3) \$58.34 کے مطابق، 24 CFR §58.6 کے قابل اطلاق تقاضوں کے سوا، انتظامی سرگرمیاں اس لائحہ عمل کے تحت مستثنیٰ سرگرمیاں ہیں۔ جب ٹھیکہ مل جائے، تو GLO موزوں دستاویزیت والے ذیلی وصول کنندگان اور GLO کیلئے اہلیت رکھنے والی قدرتی آفت سے بحالی کی سرگرمیوں سے وابستہ اب سے لے کر آفت کی تاریخ تک کے قبل از معاہدہ اخراجات وصول کرنے کی اجازت دے گا۔

GLO نگرانی، مینیجمنٹ اور رپورٹنگ کے مقاصد کے لیے تفویض کردہ CDBG-DR کے ساتھ منسلک انتظامی لاگتوں کے لیے تفویض کردہ کل 5% برقرار رکھے گا۔ ہیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر میں انتظامی قسم کی سرگرمیوں کا تقاضہ کرنے والی رہائشی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک لاگتوں کے ضمن میں پروگرام کی لاگتوں کا صرف 2% تک الاؤنس کا اسٹنٹی ہو گا۔ اضافی طور پر، ہیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن رہائشی سرگرمیوں کے نفاذ سے براہ راست متعلقہ لاگتوں کے لیے پروگرام کی رقم کا 10% تک اور غیر رہائشی اور انفراسٹرکچر کی قسم کی سرگرمیوں کے لیے 6% تک خرچ کرنے کے مجاز ہوں گے۔ ایک دفعہ جب ہیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن کی جانب سے شناخت ہو جائیں، تو انتظامی لاگتیں مابعد ایکشن پلان کے ترمیمی بجٹس میں مذکور کی جائیں گی۔ انجینئرنگ اور ڈیزائن کی سرگرمیاں کل پروجیکٹ کی رقم کے 15% تک محدود کر دی جائیں گی تاوقتیکہ خصوصی سروسز ضروری ہوں؛ GLO سے مشروط GLO، ہیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر ہر متعلقہ فنڈز کے لیے پلاننگ کو 24 CFR 570.205 میں وضاحت کردہ طور پر پراجیکٹس کی تکمیل کے لیے لاگتوں کو 5% تک محدود کر دیں گے۔

G. مقام

اس لائحہ عمل کے تحت تمام CDBG-DR کی جانب سے فنڈ وصول کرنے والی سرگرمیاں FEMA DR-4332 کی آفت زدہ کاؤنٹیز میں سرانجام دی جائیں گی۔ اس لائحہ عمل کے مقصد کیلئے، جن کاؤنٹیز نے عوامی معاونت کے پروگرام کے تحت ہنگامی حفاظتی اقدامات کیلئے براہ راست وفاقی معاونت سمیت FEMA کے حادثاتی اعلانات وصول کیے تھے، وہ CDBG-DR 49 اہلیت رکھنے والی کاؤنٹیز میں شامل نہیں ہیں۔

H. شدت کم کرنے کے اقدامات

GLO ذیلی وصول کنندگان کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ از سر نو تعمیر کی سرگرمیوں میں تیار رہنے اور شدت کم کرنے کے اقدامات کو ضم کیا جائے۔ اس سے یہ بات یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ بحالی کے بعد کمیونٹیز قدرتی آفت سے پہلے کی نسبت محفوظ تر اور مضبوط تر ہوں۔ ان اقدامات کی شمولیت مستقبل کی قدرتی آفات سے بحالی میں لگنے والے اخراجات کو بھی گھٹاتی ہے۔ شدت کم کرنے کے جو اقدامات از سر نو تعمیر کی سرگرمیوں میں ضم نہیں کیے جاتے، انہیں قدرتی آفت کے بعد امداد، طویل المدتی بحالی اور انفراسٹرکچر، رہائش، یا اعلان کردہ قدرتی آفت FEMA DR-4332 کے رد عمل میں معاشیات میں نئی روح پھونکنے کے عمل میں لازمی خرچ بننا پڑے گا۔

I. قومی مقاصد

یہ بات متوقع ہے کہ ہاروے طوفان سے بحالی کی کوشش سرانجام دینے میں تمام قومی مقاصد کا استعمال کیا جائے گا۔ فوری ضرورت کی سرگرمیوں کیلئے CDBG-DR فنڈز وصول کرنے والا ہر ذیلی وصول کنندہ اس بات کو دستاویز بند کرے گا فوری ضرورت کے قومی مقصد کے تحت فنڈز وصول کرنے والی تمام سرگرمیاں اور پراجیکٹس ذیلی وصول کنندگان کی جانب سے شناخت کردہ کسی آفت سے وابستہ نقصان کا ردعمل کیسے دیتے ہیں۔ اس نوٹس کے تحت گرانٹس کیلئے، فوری ضرورت کی دستاویزیت کیلئے CDBG سرٹیفیکیشن کے تقاضے، جو کہ 24 CFR 570.483(d) میں درج ہیں، معاف کیے جاتے ہیں۔

CDBG-DR کے مجموعی پروگرام فنڈز کے کم از کم 70 فیصد کو ان سرگرمیوں کی معاونت کرنے میں استعمال کیا جائے گا جو کم - اور متوسط - آمدن والے افراد کو فائدہ پہنچاتی ہوں۔

V. شہری شرکت

اس منصوبے کا بنیادی ہدف ٹیکساس کے رہائشیوں کو ایسے واضح مواقع فراہم کرنا ہے، کہ وہ خود کو بحالی کے عمل میں شامل کریں، کیونکہ یہ CDBG-DR کا حصہ ہے۔ دی ٹیکساس جنرل لینڈ آفس (The Texas General Land Office) (GLO) ان مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے جن کا بہت سے لوگ ہاروے طوفان کے بعد سے سامنا کر رہے ہیں اور وہ بحالی کی کوشش میں مصروف کمزور آبادیوں کو آسان رسائی فراہم کرنے کیلئے کوشاں ہے۔

GLO کا کمیونٹی ڈویلپمنٹ اینڈ ری وائٹلائزیشن کا ہاروے طوفان کیلئے شہریوں کی شرکت کا منصوبہ Federal Register Notice Vol. 83, No. 28 جمع، 9 فروری 2018 کو وضع کردہ تقاضوں کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔

نوٹس کے مطابق، "مزید ہموار عمل کی اجازت دینے اور یہ یقینی بنانے کیلئے کہ حادثے سے بحالی کی گرانٹس بروقت انداز میں عطا کی جائیں، (2) (42 U.S.C. 5304(a)) اور 24 CFR 1003.604 اور 24 CFR 91.115(b) اور (c) کی سفارشات کو شہری شرکت کے تقاضوں کے مطابق معاف کیا جاتا ہے اور مندرجہ ذیل تقاضوں سے بدلا جا رہا ہے۔ ہموار کردہ تقاضے عوامی سماعتوں کی اجازت نہیں دیتے لیکن گرانٹ وصول کرنے والے سے تقاضا ضرور کرتے ہیں کہ شہریوں کے تبصرے اور گرانٹ فنڈز کے استعمال کے متعلق شہریوں کو فی الحال حاصل رسائی کیلئے موزوں موقع فراہم کریں۔"

ٹیکساس جنرل لینڈ آفس سٹیزن پارٹسپیشن پلان فار ہریکین ہاروے کے تازہ ترین ورژن کو www.glo.texas.gov پر رکھ دیا جائے گا۔

دی سٹیٹ آف ٹیکساس ایکشن پلان فار ہریکین ہاروے اور بعد میں پیش آنے والی کوئی سی بھی ترمیم ہاروے طوفان سے بڑے نقصانات اور بحالی کے عمل میں غیر تکمیل شدہ ضروریات کی خاکہ بندی کرتی ہیں۔ لائحہ عمل CDBG-DR فنڈز کے جائز استعمال، اور مخصوص پروگرامز کی خاکہ بندی کرتا ہے جو کہ GLO کی جانب سے قابل اجازت ہوں گے۔

A. اشاعت

اس سے قبل کہ GLO اس گرانٹ یا اس گرانٹ میں کسی اہم ترمیم کیلئے لائحہ عمل کو اپنا لے، GLO مجوزہ منصوبے یا ترمیم کو <http://www.glo.texas.gov/recovery/reports/action-plans/index.html> پر شائع کرے گا، جو کہ GLO کی مرکزی ویب سائٹ ہے، اور اضافی ایجنسیوں کی ویب سائٹس کے ساتھ اس کا تقابلی حوالہ بھی دے گا: TexasRebuilds.com اور TexasRebuilds.org

GLO اور/یا ذیلی وصول کنندگان متاثرہ شہریوں کو برقی ڈاک، پریس ریلیزز، عوامی اہلکاروں کی جانب سے بیانات، میڈیا میں اشتہارات، عوامی خدمت کے اعلانات، نیوز لیٹرز، علاقائی تنظیموں کے ساتھ روابط، اور/یا سوشل میڈیا کے ذریعے مطلع کرے گا۔

GLO اس بات کو یقینی بنائے گا کہ تمام شہریوں کو پروگرامز کے متعلق معلومات تک یکساں رسائی ہو، بشمول معذوریوں والے افراد اور انگریزی میں محدود مہارت رکھنے والے افراد (LEP) کو۔ GLO یقینی بنائے گا کہ پروگرام کی معلومات اس جغرافیائی علاقے کیلئے موزوں زبانوں میں دستیاب ہے جو دائرہ اختیار میں ہیں اور جہاں خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ یقینی بنانے میں معاونت کیلئے کہ یہ معلومات LEP آبادیوں کو دستیاب ہیں، وصول کنندگان کو (وفاقی

اقتصادی امداد کے وصول کنندگان کو ٹائٹل VI کے متعلق حتمی راہنمائی، قومی آبائیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی ممانعت جو انگریزی میں محدود قابلیت رکھنے والے افراد پر اثر انداز ہوتا ہے، اشاعت کردہ مورخہ جنوری 22، 2007 در (72 FR 2732) Federal Register سے رابطہ کرنا چاہیئے۔

GLO ریاستی انضمام شدہ پلان، متاثرہ علاقے میں بنائے گئے اہم ایکشن پلانز، اور اس ایکشن پلان کا مناسب زبانوں میں ترجمے کا تعین کرنے کے لیے ووٹنگ بیلٹ کے تقاضوں کو زیر غور لاتا ہے۔ یہ ایکشن پلان کلی طور پر ہسپانوی، ویتنامی، چائنیز، اردو اور عربی میں ترجمہ کیا جائے گا۔ یہ منتخب کردہ زبانیں CDBG-DR فنڈز کے تمام اہل علاقوں کی بنیاد پر اور انگریزی کی محدود صلاحیت کے حامل افراد کے لیے منتخب کی گئی ہیں۔ افراد کی جانب سے اضافی زبانوں میں رسائی کا تقاضہ کیے جانے کے ضمن میں GLO درخواست کرنے پر ایکشن پلان کے تخصیص کردہ تراجم فراہم کرنے کے لیے ترجمہ کی سروس کے ساتھ رابطہ کرے گا۔ وہ تمام عوامی جگہیں جو نجی افراد کے لیے دستیاب پروگرامز میں براہ راست کام کرتی ہیں، وہ قابل اطلاق زبانوں میں اس سروس کی تفصیلات کے ضمن میں مجموعی طور پر تشہیر کریں گے۔ GLO کی ویب سائٹ میں یکساں ترتیب شامل ہو گی۔

لائحہ عمل کی اشاعت یا اہم ترمیم کی اشاعت کے بعد، GLO کم از کم 14 دن کا منطقی موقع فراہم کرے گا اور اس کے پاس تبصرے وصول کرنے کیلئے طریقہ ہو گا (طریقے ہوں گے)۔

GLO تبصرے USPS میل، فیکس، ای میل، یا GLO کی ویب سائٹ کے ذریعے وصول کرے گا:

ٹیکسس جنرل لینڈ آفس

کمیونٹی ڈویلپمنٹ اور ری وائٹلائزیشن

P.O. Box 12873

Austin, TX 78711-2873

فیکس: 512-475-5150

ای میل: cdr@glo.texas.gov

آن لائن فارم: <http://www.glo.texas.gov/recovery/reports/action->

[plans/index.html](http://www.glo.texas.gov/recovery/reports/action-plans/index.html)

لائحہ عمل میں، GLO وہ معیارات مختص کرے گا جو تعین کرتے ہوں کہ GLO کے منصوبے میں کیا تبدیلیاں منصوبے میں اہم ترمیم کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ کم از کم، مندرجہ ذیل تبدیلیاں ایک اہم ترمیم بن جاتی ہیں: پروگرام کے فائدے یا اہلیت کے معیار میں تبدیلی، سرگرمی کی شمولیت یا حذف کاری، یا مالیاتی حد کا تعین یا از سر نو تعین جو GLO نے لائحہ عمل میں مختص کیا ہو۔

B. عوامی تبصروں پر غور

GLO لائحہ عمل یا کسی اہم ترمیم کے متعلق تمام تبصروں پر غور کرے گا۔ تبصروں کا خلاصہ اور ضمیمے کے سیکشن میں واقع ہر ایک کو GLO کا ردعمل لائحہ عمل یا اہم ترمیم سمیت HUD کو جمع کرایا جائے گا۔

C. شہریوں کی شکایات

GLO ہر شہری شکایت کو ایک بروقت تحریری ردعمل فراہم کرے گا۔ ردعمل شکایت کی وصولی کے پندرہ (15) کاروباری دنوں کے اندر اندر فراہم کیا جائے گا، جہاں اس پر عمل کرنا ممکن ہو۔

D. اہم ترمیم

جو جوں گرانٹ دیئے جانے کے عمل کے ذریعے اضافی معلومات اور فنڈنگ دستیاب ہوتی ہے، اس لائحہ عمل میں ترمیم متوقع ہیں۔ اس لائحہ عمل میں کوئی اہم ترمیم اپنانے سے قبل، GLO مجوزہ منصوبے یا ترمیم کو GLO کی سرکاری ویب سائٹ پر شائع کر دے گا اور شہریوں، متاثرہ مقامی حکومتوں، اور دلچسپی رکھنے والے دیگر فریقین کو منصوبے یا ترمیم کے مندرجات کا معائنہ کرنے کا مناسب موقع فراہم کرے گا۔ کم از کم، مندرجہ ذیل تبدیلیاں ایک بڑی ترمیم بنیں گی۔

- پروگرام کے فائدے یا اہلیت کے معیار میں کوئی تبدیلی؛
- 1 ملین \$ سے زائد رقم کی تفویض یا از سر نو تفویض؛ یا پھر
- کسی سرگرمی کی شمولیت یا حذف کاری۔

E. غیر اہم ترمیم

جب GLO منصوبے میں کوئی ایسی تبدیلی کرتا ہے جو کہ اہم نہ ہو، تو وہ HUD کو مطلع کرے گا۔ HUD کو ترمیم کے مؤثر ہونے سے کم از کم پانچ (5) کاروباری ددن قبل مطلع کیا جائے گا۔ HUD غیر اہم ترمیم کی وصولی کی بذریعہ ای میل پانچ (5) کاروباری دنوں میں تصدیق کرے گا۔

F. کمیونٹی کی مشاورت

ہاروے طوفان کے ٹیکساس کے ساحل پر ٹکرانے سے قبل، GLO نے قدرتی آفت کی راہ میں آنے کے خدشے میں موجود مقامی حکام کو ای میل کرنے کیلئے اقدامات اٹھائے، جو کہ انہیں ان اقدامات کی یاددہانی کراتے تھے جو وہ ضرورت پڑنے پر مؤثر بحالی کو یقینی بنانے میں مدد دینے کیلئے اٹھا سکتے تھے۔ تب سے، GLO نے مقامی حکام اور دلچسپی رکھنے والے فریقین سے ردعمل حاصل کرنے کیلئے اپنی کوششوں کو ملاقاتوں، کانفرنس کالز، اور متاثرہ کمیونٹیز میں متواتر دوروں کے ذریعے جاری رکھا ہوا ہے۔ ان دوروں میں عوامی فورمز اور منتخب حکام بشمول مقامی، ریاستی، اور وفاقی شراکت داروں کے ساتھ ملاقاتیں شامل رہی ہیں۔

نومبر کے وسط سے، GLO نے مقامی منتخب اہلکاروں کے ساتھ ہفتہ وار کانفرنس کالز منعقد کرائی ہیں تاکہ ہاروے طوفان کے بعد بحالی کی کوششوں پر اپ ڈیٹس فراہم کی جائیں۔ کالز میں فریقین کیلئے مجموعی بحالی اور اپنی کمیونٹی سے متعلق ناگزیر سوالات پوچھنے کیلئے وقت شامل تھا۔ فروری میں، GLO نے خود کو مہینے میں دو بار کالز کرنے پر بدل لیا، لیکن اگر مقامی ماہرین درخواست کریں تو یہ تواتر بڑھ سکتا ہے۔

HUD کے ساتھ شراکت داری میں، GLO "سٹرائٹ ٹیم میٹنگز" منعقد کراتا رہا ہے تاکہ انفرادی کمیونٹیز کیلئے بہترین باہمی تعاون پر مبنی بحالی کو عمل میں لانے کیلئے مقامی اہلکاروں کو مخصوص سوالات پوچھنے اور ممکنہ پراجیکٹس کو ریاستی اور وفاقی ایجنسیوں کے پاس لانے کا موقع ملے۔ مقصد یہ ہے کہ متاثرہ علاقے میں ہر کاؤنٹی کے ساتھ ایک سٹرائٹ ٹیم میٹنگ سرانجام دی جائے۔

GLO نے ٹیکساس کو از سر نو تعمیر کرنے کیلئے گورنر کے کمیشن کے ساتھ ملاقاتوں، سٹرائٹ ٹیم میٹنگز اور دیگر درخواست کردہ میٹنگز میں شراکت کی ہے۔ کمیونٹی مشاورت کی مجموعی فہرست ضمیمے میں شامل ہے۔

G. عوامی ویب سائٹ

GLO ایک عوامی ویب سائٹ برقرار رکھے گا جو اس بات کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے کہ تمام گرانٹ فنڈز کس طرح منظم/جاری کیے جاتے ہیں، بشمول: تمام لائحات عمل کے لنکس، لائحہ عمل کی ترامیم، CDBG-DR پروگرام کی پالیسیاں اور کاروائیاں، کارکردگی کی رپورٹیں، شہری شرکت کے تقاضے، اور اس کے لائحہ عمل میں بیان کردہ تمام سرگرمیوں کیلئے سرگرمی/پروگرام کی معلومات، بشمول تمام ٹھیکوں اور حصول کی فی الحال جاری پالیسیاں۔

GLO مندرجہ ذیل آئٹمز کو www.glo.texas.gov/recovery پر دستیاب کرے گا: (1) لائحہ عمل (تمام ترامیم سمیت)؛ ہر سہ ماہی کی کارکردگی کی رپورٹ (QPR) جیسا کہ Disaster Recovery Grant Reporting System (DRGR) کا استعمال کرتے ہوئے تخلیق کی گئی؛ (2) حصول کی پالیسیاں اور کاروائیاں؛ (3) سرانجام دیئے گئے CDBG-DR ٹھیکے؛ اور (4) GLO کی جانب سے فی الحال حاصل کی جانے والی مصنوعات یا خدمات کی حیثیت (مثلاً حصول کا مرحلہ، تجاویز کیلئے درکار معاہدے، وغیرہ)۔




مندرجہ بالا مخصوص آئٹمز کے ساتھ، GLO ان فنڈز کے ساتھ وابستہ قدرتی آفت سے بحالی کی تمام سرگرمیوں کے متعلق ایک جامع ویب سائٹ برقرار رکھے گا۔ اس میں GLO کی مرکزی ویب سائٹ www.glo.texas.gov پر معلومات کی اطلاع دینا، اور قدرتی آفت سے بحالی کیلئے خصوصی طور پر وابستہ ایک علیحدہ سائٹ میں پروگرام کی اضافی، تفصیلی معلومات شامل ہیں۔ دونوں ویب سائٹس کو بروقت انداز میں اپ ڈیٹ کیا جائے گا تاکہ ان فنڈز کے استعمال کے متعلق تازہ ترین معلومات، اور جہاں ضرورت پڑے، پالیسیوں اور کاروائیوں میں کوئی سی تبدیلیوں کی عکاسی ہو۔ کم از کم، اپ ڈیٹس ماہانہ بنیادوں پر کی جائیں گی۔

H. معافیاں

دی اپروپریٹیشنز ایکٹ HUD (The Appropriations Act) کے سیکرٹری کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی اُس قانون یا ضابطے کی کسی دفعہ کیلئے متبادل تقاضوں کو معاف یا مختص کرے، جو کہ سیکرٹری اپنی ذمہ داری سے یا پھر وصول کنندہ کے ان فنڈز اور ضمانتوں کے استعمال کے متعلق جاری کرتا ہے، ماسوائے ان تقاضوں کے جو منصفانہ رہائش، عدم امتیاز، مزدوری کے معیارات، اور ماحول (سیسے والے پینٹس کے متعلق تقاضوں سمیت) سے متعلق ہوں، ایسا مندرجہ ذیل صورتوں میں ہوتا ہے: (1) گرانٹ وصول کرنے والے کی جانب سے یہ وضاحت کرنے والی درخواست پر کہ ایسے فنڈز یا گرانٹوں کے استعمال کو فروغ دینے کیلئے ایسی معافی کیوں درکار ہے، اور (2) سیکرٹری کی جانب سے یہ پتہ لگانے پر کہ ایسی معافی Housing and Community Development (HCD) Act کے ساتھ عدم مطابقت نہیں رکھے گی۔ ضابطے کی معافی کا اختیار CFR 5.110، 24 CFR 91.600 اور 570.5 بھی فراہم کرتا ہے۔

VI. ضمیمہ A: CDBG-DR Eligible اور سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹیز اور ZIPs

اسٹیٹ آف ٹیکساس: طوفان ہاروے سے زیادہ متاثرہ علاقے



77335	نیوٹن (Newton)	گرامز (Grimes)	ارنساس (Aransas) (MI)
77414	ٹویسس (Nueces) (MI)	گواڈالوپے (Guadalupe)	آسٹن (Austin)
77423	اورنج (Orange) (MI)	ہارڈن (Hardin) (MI)	بیسٹروپ (Bastrop)
77612	پوک (Polk)	ہیرس (Harris) (MI)	بی (Bee)
77632	ریفیوجیو (Refugio)	جیکسن (Jackson)	برازوریا (Brazoria) (MI)
77979	سایبین (Sabine)	جیسپر (Jasper)	برلسن (Burlson)
78377	سان آگسٹین (San Augustine)	جیفرسن (MI)	گیلڈ ویل (Caldwell)
78934	سان جاسینٹو (San Jacinto) (MI)	جم ویلز (Jim Wells)	کال ہون
78945	سان پیٹریشیو (MI)	کارنز (Karnes)	چیمبرز (MI)
MI = HUD شناخت کردہ انتہائی متاثرہ	ٹائلر (Tyler)	کلبرگ	کولوراڈو (Colorado)
	وگٹوریا (Victoria) (MI)	لاواکا (Lavaca)	کامال (Comal)
	واکر (Walker)	لی (Lee)	ڈی وٹ (DeWitt)
	والر (Waller)	لیبرٹی (Liberty) (MI)	فائیٹ (Fayette)
	واشنگٹن (Washington)	میڈیسن (Madison)	فورٹ بینڈ (Fort Bend) (MI)
	وارٹن (Wharton) (MI)	میٹاگورڈا	گالویسٹون (MI)
	75956	ملام (Milam)	گولیاڈ (Goliad)
	75979	مانٹگامری	گونزالز (Gonzales)
		(Montgomery) (MI)	

VII. ضمیمہ B: سرٹیفیکیشنز

CFR 91.225 اور 91.325 معاف کی جاتی ہیں۔ ہر گرانٹ وصول کنندہ جو اس نوٹس کے تحت براہ راست رقم وصول کر رہا ہو گا اسے اس لائحہ عمل کے ساتھ مندرجہ ذیل سرٹیفیکیشنز بنانا پڑیں گی:

a. رقم وصول کرنے والا یہ تصدیق کرتا ہے کہ اس پر عملدرآمد جاری ہے اور وہ CDBG پروگرام کے تحت فنڈنگ کے ذریعے معاونت پانے والی کسی سرگرمی میں ایک رہائشی بے دخلی کے انسداد اور نقل مکانی میں معاونت کے منصوبے کی پیروی کر رہا ہے

b. گرانٹ وصول کنندہ خود کی CFR 24 حصہ 87 کی درکار کردہ اثراندازی پر عائد پابندیوں نیز انکشاف کے فارمز کی تعمیل کی تصدیق کرتا ہے، اگر حصہ 87 کو درکار ہو۔

c. گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ قدرتی آفت سے بحالی کیلئے لائحہ عمل ریاستی اور مقامی قانون کے تحت لکھا گیا ہے (جیسے قابل عمل ہو) اور یہ کہ گرانٹ وصول کنندہ، اور کوئی ذیلی ٹھیکے دار، ذیلی وصول کنندہ، یا مختص کردہ عوامی ایجنسی جو CDBG-DR فنڈز کے ساتھ کوئی سرگرمی سرانجام دے رہی ہو، اس پروگرام کو سرانجام دینے کیلئے، قابل اطلاق HUD ضوابط اور اس نوٹس کے مطابق قانونی اختیار کی مالک ہے (ہیں) جس کیلئے وہ فنڈنگ حاصل کر رہی ہے۔ گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ جو سرگرمیاں اس نوٹس کے تحت آنے والے فنڈز کے ساتھ اٹھائی جانی ہیں، اس لائحہ عمل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔

d. گرانٹ وصول کرنے والا تصدیق کرتا ہے کہ وہ URA کے حصول اور نقل مکانی کے تقاضوں، جو کہ ترمیم شدہ ہیں، اور CFR 49 حصہ 24 میں اطلاق کے ضوابط کی تعمیل کرے گا، ماسوائے تب جب معافیوں یا متبادل تقاضوں کے متعلق اس نوٹس میں قوانین بتائے گئے ہوں۔

e. گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈویلپمنٹ ایکٹ آف (Housing and Urban Development Act of 1968) (12 U.S.C. 1701u) کے سیکشن 3 اور CFR 24 حصہ 135 پر اطلاق کرنے والے ضوابط کی تعمیل کرے گا۔ گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ ایک تفصیلی شہری کی شرکت کے منصوبے کی پیروی کرتا ہے جو کہ CFR 91.115 یا 91.105 کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو (ماسوائے جیسا کہ اس گرانٹ کیلئے معافیاں اور متبادل تقاضے فراہم کرنے والے نوٹسز میں فراہم کردہ ہے)۔ نیز، کسی ریاستی گرانٹ وصول کنندہ سے معاونت وصول کرنے والی ہر مقامی حکومت کو لازماً ایک تفصیلی شہریوں کی شمولیت کے منصوبے کی تعمیل کرنا پڑے گی جو کہ CFR 24 570.486 کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو (ماسوائے جیسا کہ اس گرانٹ کیلئے معافیاں اور متبادل تقاضے فراہم کرنے والے نوٹسز میں فراہم کردہ ہے)۔

g. ریاست کا گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ اس نے احاطہ کردہ قدرتی آفات کے اعلانات میں مختص کردہ کاؤنٹیز کے ساتھ عدم استحقاق، استحقاق اور ریاست کے قبائلی علاقوں فنڈنگ کی تقسیم کاری کے طریقے، یا ریاست کی جانب سے براہ راست سرانجام دی جانے والی سرگرمیوں سمیت فنڈز کے استعمالات کا تعین کرنے پر مشاورت کی ہے۔

h. گرانٹی تصدیق کرتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل ہر معیار کی تعمیل کر رہا ہے:

1 - فنڈز کو اُن بدترین متاثرہ اور مصیبت زدہ علاقوں میں محض قدرتی آفت کی امداد، طویل المدت بحالی، انفراسٹرکچر کی دوبارہ تعمیر، اور رہائش اور معیشت میں نئی روح پھونکنے سے متعلق ضروری اخراجات کیلئے ہی استعمال کیا جائے گا جن کیلئے صدر نے 2016 میں Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (42 U.S.C. 5121) کی پیروی کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ وہ بڑی قدرتی آفت کا شکار ہوئے ہیں۔

2 - جن سرگرمیوں میں CDBG-DR فنڈز سے معاونت کی توقع ہے، ان کے لحاظ سے لائحہ عمل کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ امکانی ترجیح اُن سرگرمیوں کو دی جائے جو کم - اور متوسط - آمدن والے خاندانوں کو فائدہ پہنچاتی ہوں۔

3- CDBG-DR فنڈز کا مجموعی استعمال اصولی طور پر کم- اور متوسط- آمدن والے خاندانوں کو ایسے انداز میں فائدہ پہنچائے گا جو یقینی بنائے کہ گرانٹ کی رقم کا کم از کم 70 فیصد (یا کسی قابل اطلاق فیڈرل رجسٹر (Federal Register) نوٹس میں شائع شدہ HUD کی جانب سے اجازت یافتہ کسی اور شرح فیصد) ایسی سرگرمیوں میں صرف ہوتا ہے جو ایسے افراد کو فائدہ پہنچاتی ہوں۔

4- جو جائیدادیں کم - اور متوسط آمدن والے افراد کی ملکیت میں ہوں یا جن میں انہوں نے سکونت اختیار کی ہو، گرانٹ وصول کنندہ اُن کے ساتھ کسی بھی رقم کے موازنے میں جانچ کاری کرتے ہوئے CDBG-DR گرانٹ فنڈز کی معاونت سے عوامی بہتری کے کاموں میں لگنے والی کسی سرمایہ کاری کے اخراجات واپس حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، بشمول ایسے عوامی بہتری کے کاموں تک رسائی کی شرط کے طور پر کی جانے والی کسی جانچ کاری یا عائد کردہ کسی فیس میں، تاوقتیکہ:

(a) قدرتی آفت سے بحالی کے گرانٹ فنڈز کو ایسی فیس کے تناسب یا ایسی جانچکاری کی ادائیگی کیلئے استعمال کیا گیا ہو جو ایسے عوامی بہتری کے کاموں کی سرمایہ کاری کے سرمایہ کاری کے اخراجات سے متعلق ہوں جو اس عنوان کے علاوہ زرمبادلہ کے ذرائع کے ذریعے ادائیگی شدہ ہوں؛ یا

(b) متوسط آمدن والے افراد کی ملکیت یا سکونت میں آنے والی جائیدادوں کے موازنے میں کسی رقم کی جانچکاری کرنے کے مقاصد کیلئے، گرانٹ وصول کنندہ سیکرٹری سے تصدیق کرتا ہے کہ اس کے پاس کلاز (a) کے تقاضوں کی تعمیل کیلئے کافی CDBG فنڈز (کسی بھی صورت میں) موجود نہیں۔

i. گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ گرانٹ 1964 کے Civil Rights Act (U.S.C. 200d) کے ٹائٹل VI، Fair Housing Act (42 U.S.C. 3601-3619)، اور لاگو ہونے والے ضوابط کے مطابق سرانجام دی اور جاری کی جائے گی، اور واقعی منصفانہ رہائش کو آگے بڑھائے گی۔

j. رقم وصول کرنے والا تصدیق کرتا ہے کہ اس نے مندرجہ ذیل پالیسیوں کو اختیار کیا اور ان پر عملدرآمد کرا رہا ہے، نیز، اسے لازماً تصدیق کرنی ہے کہ وہ گرانٹ فنڈز وصول کرنے والی مقامی حکومتوں سے تقاضا کریں گے کہ وہ تصدیق کریں کہ انہوں نے مندرجہ ذیل کو اپنایا اور عملدرآمد کر رہی ہیں:

1- ایک پالیسی جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کی جانب سے اپنے دائرہ اختیار میں غیر متشدد سماجی حقوق کے مظاہروں میں ملوث کوئی سے افراد کے خلاف طاقت کے بے حد استعمال کی ممانعت کرتی ہو؛ اور

2- اپنے دائرہ اختیار میں ایسے غیر متشدد سماجی حقوق کا موضوع بننے والے کسی فیسلٹی یا مقام میں داخلے یا اس سے خروج کی طبعی طور پر ممانعت کرنے کے خلاف قابل اطلاق ریاستی اور مقامی قوانین کا اطلاق کرنے کی پالیسی۔

k. گرانٹ دینے والا تصدیق کرتا ہے کہ اس میں (اور کوئی ذیلی وصول کنندہ یا انتظامی ادارہ) قدرتی آفت سے بحالی کی سرگرمیوں کو بروقت انداز میں سرانجام دینے کی صلاحیت پہلے سے موجود ہے یا وہ یہ صلاحیت پیدا کر لے گا اور یہ کہ گرانٹ دینے والے نے اس نوٹس کے تقاضوں پر نظر ثانی کر لیا ہے۔ اگر HUD کی جانب سے منظور کیا جائے، تو گرانٹ دینے والا اپنے عوامی قانون 115-56 اقتصادی تنظیم اور گرانٹ کی تعمیل کی تصدیق کی چیک لسٹ یا دیگر مزید حالیہ تصدیق کی جمع شدگی، اور متعلقہ معاونتی دستاویزیت کی تصدیق کرتا ہے جن کا حوالہ A.1.a. میں سیکشن VI کے تحت دیا گیا ہے، نیز اس کے اطلاق کے منصوبے اور صلاحیت کی جانچکاری اور HUD کو کی گئی متعلقہ جمع شدگیوں کی بھی، جن کا حوالہ A.1.b. میں سیکشن VI کے تحت کیا گیا ہے۔

1- گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ CDBG-DR فنڈز کو کسی ایسے علاقے میں زمین کے استعمال یا کسی سرگرمی کیلئے استعمال نہیں کرے گا جو ریاست، مقامی، یا قبائلی حکومت کی جانب سے سیلاب سے عام طور پر متاثر ہونے والے علاقے کے طور پر شناخت یافتہ ہے، یا پھر جس کی حلقہ بندی FEMA کے تازہ ترین سیلاب سے بچاؤ کے مشورے والے نقشوں میں خصوصی سیلاب کے خطرے والے علاقے (یا 100 سالہ سیلابی میدانی علاقے) کے طور پر کی گئی ہے، تاوقتیکہ وہ اس بات کو بھی یقینی بنائے کہ ایگزیکٹو آرڈر 11988 (Executive Order 11988) اور 24 CFR حصہ 55 کی مطابقت سے اس کاروائی کو سیلابی میدانی علاقے یا اس کے اندر خطرے کو گھٹانے کیلئے تیار کیا گیا ہے یا اس مقصد کیلئے اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس دفعہ کیلئے متعلقہ ڈیٹا کا منبع ریاستی، مقامی یا قبائلی حکومت کے زمین کے استعمال کے ضوابط اور خطرے کو گھٹانے کے منصوبے اور FEMA کا تازہ ترین جاری کردہ ڈیٹا یا ہدایت ہے جس میں مشورے کا ڈیٹا (جیسا کہ مشاورتی اساسی سیلاب کی اونچائیاں Advisory Base Flood Elevations) یا تمہیدی یا حتمی سیلاب کے انشورنس ریٹ کے نقشے (Flood Insurance Rate Maps) ہیں۔

m. گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ سیسے والے پینٹ سے متعلق اس کی سرگرمیاں 24 CFR حصہ 35، ذیلی حصوں A، B، J، K، اور R کے تقاضوں کی تعمیل کریں گی۔

n. گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ 24 CFR حصہ 58 میں موجود ماحولیاتی تقاضوں کی تعمیل کرے گا۔


o. گرانٹ وصول کنندہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ قابل اطلاق قوانین کی تعمیل کرے گا۔

انتباہ: کوئی بھی شخص جو HUD میں جھوٹا دعویٰ یا بیان دیتا ہے، 18 U.S.C. 287,1001 اور 31 U.S.C. 3729 کے تحت دیوانی یا فوجداری سزاؤں کا نشانہ بن سکتا ہے۔


VIII. ضمیمہ C: پروگرام سرانجام دینے کی ٹائم لائنز

اگرچہ بہت سے عوامل بحالی کے پروگرامز کی ٹائم لائن میں حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن مندرجہ ذیل رہائش اور انفراسٹرکچر پروگرامز کیلئے تخمینہ شدہ ٹائم لائن ہے۔

A. پروگرام کے وقت کی ٹائم لائنز



B. انفراسٹرکچر پروگرام کے وقت کی ٹائم لائنز



IX. ضمیمہ D: تخمینہ شدہ اخراجات اور نتائج

پروگرام	پروگرام کی تفویض کاری	2018			
		Q1	Q2	Q3	Q4
مالک مکان کی معاونت کا پروگرام	\$ 1,048,011,316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000
مقامی خرید/حصول کا پروگرام	\$ 275,620,892	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
مالک مکان کو واپس ادائیگی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 40,000,000
بے گھر ہونے کی روک تھام کا پروگرام	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 4,000,000
مناسب کرائے کا پروگرام	\$ 250,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PREPS پروگرام	\$ 72,675,000	\$ -	\$ -	\$ 72,675,000	\$ -
بیرس کاؤنٹی	\$ 1,155,119,250				
سٹی آف ہوسٹن	\$ 1,115,386,830				
مقامی انفراسٹرکچر سے متعلق پروگرام	\$ 413,431,338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
معاشرتی بحالی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 20,000,000
ریاستی منصوبے کی ڈیلیوری	\$ 55,074,178	\$ -	\$ -	\$ 1,612,500	\$ 1,373,000
ریاستی منصوبہ بندی	\$ 137,685,446	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ 150,000
ریاستی انتظامیہ	\$ 251,210,750	\$ -	\$ -	\$ 750,000	\$ 2,500,000
کل جمع	\$ 5,024,215,000	\$ -	\$ -	\$ 82,237,500	\$ 70,023,000
باقی فنڈز		\$ 5,024,168,500	\$ 5,024,168,500	\$ 4,941,931,000	\$ 4,871,908,000
پروگرام	پروگرام کی تفویض کاری	2019			
		Q1	Q2	Q3	Q4
مالک مکان کی معاونت کا پروگرام	\$ 1,048,011,316	\$ 9,000,000	\$ 18,000,000	\$ 28,000,000	\$ 55,000,000
مقامی خرید/حصول کا پروگرام	\$ 275,620,892	\$ 1,000,000	\$ 3,000,000	\$ 5,000,000	\$ 7,000,000
مالک مکان کو واپس ادائیگی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ 40,000,000	\$ 12,000,000	\$ 3,000,000	\$ -
بے گھر ہونے کی روک تھام کا پروگرام	\$ 50,000,000	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	\$ 7,000,000	\$ 6,000,000
مناسب کرائے کا پروگرام	\$ 250,000,000	\$ 15,000,000	\$ 25,000,000	\$ 40,000,000	\$ 50,000,000
PREPS پروگرام	\$ 72,675,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بیرس کاؤنٹی	\$ 1,155,119,250	\$ 13,250,000	\$ 25,000,000	\$ 45,000,000	\$ 60,000,000
سٹی آف ہوسٹن	\$ 1,115,386,830	\$ 13,250,000	\$ 25,000,000	\$ 40,000,000	\$ 60,000,000
مقامی انفراسٹرکچر سے متعلق پروگرام	\$ 413,431,338	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 8,000,000	\$ 15,000,000
معاشرتی بحالی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ 28,000,000	\$ 22,000,000	\$ 15,000,000	\$ 7,000,000
ریاستی منصوبے کی ڈیلیوری	\$ 55,074,178	\$ 2,123,000	\$ 2,020,000	\$ 2,390,000	\$ 3,120,000
ریاستی منصوبہ بندی	\$ 137,685,446	\$ 150,000	\$ 1,000,000	\$ 1,500,000	\$ 2,000,000
ریاستی انتظامیہ	\$ 251,210,750	\$ 5,000,000	\$ 9,000,000	\$ 12,000,000	\$ 14,000,000
کل جمع	\$ 5,024,215,000	\$ 134,773,000	\$ 153,020,000	\$ 206,890,000	\$ 279,120,000
باقی فنڈز		\$ 4,737,135,000	\$ 4,584,115,000	\$ 4,377,225,000	\$ 4,098,105,000

بروگرام	بروگرام کی تفویض کاری	2020			
		Q1	Q2	Q3	Q4
مالک مکان کی معاونت کا پروگرام	\$ 1,048,011,316	\$ 75,000,000	\$ 130,000,000	\$ 135,000,000	\$ 85,000,000
مقامی خرید/حصول کا پروگرام	\$ 275,620,892	\$ 14,000,000	\$ 20,000,000	\$ 25,000,000	\$ 30,000,000
مالک مکان کو واپس ادائیگی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بے گھر ہونے کی روک تھام کا پروگرام	\$ 50,000,000	\$ 5,000,000	\$ 4,000,000	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
مناسب کرائے کا پروگرام	\$ 250,000,000	\$ 55,000,000	\$ 30,000,000	\$ 20,000,000	\$ 10,000,000
PREPS پروگرام	\$ 72,675,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بیرس کاؤنٹی	\$ 1,155,119,250	\$ 75,000,000	\$ 85,000,000	\$ 100,000,000	\$ 95,000,000
سٹی آف ہوسٹن	\$ 1,115,386,830	\$ 75,000,000	\$ 85,000,000	\$ 95,000,000	\$ 90,000,000
مقامی انفراسٹرکچر سے متعلق پروگرام	\$ 413,431,338	\$ 20,000,000	\$ 25,000,000	\$ 30,000,000	\$ 35,000,000
معاشی بحالی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ 4,000,000	\$ 2,000,000	\$ 1,000,000	\$ -
ریاستی منصوبے کی ڈیلیوری	\$ 55,074,178	\$ 3,810,000	\$ 4,570,000	\$ 4,590,000	\$ 3,570,000
ریاستی منصوبہ بندی	\$ 137,685,446	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000
ریاستی انتظامیہ	\$ 251,210,750	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 14,000,000	\$ 14,000,000
کل جمع	\$ 5,024,215,000	\$ 344,310,000	\$ 403,070,000	\$ 429,090,000	\$ 367,070,000
باقی فنڈز		\$ 3,753,795,000	\$ 3,350,725,000	\$ 2,921,635,000	\$ 2,554,565,000


بروگرام	بروگرام کی تفویض کاری	2021			
		Q1	Q2	Q3	Q4
مالک مکان کی معاونت کا پروگرام	\$ 1,048,011,316	\$ 75,000,000	\$ 65,000,000	\$ 60,000,000	\$ 50,000,000
مقامی خرید/حصول کا پروگرام	\$ 275,620,892	\$ 28,000,000	\$ 26,000,000	\$ 23,000,000	\$ 20,000,000
مالک مکان کو واپس ادائیگی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بے گھر ہونے کی روک تھام کا پروگرام	\$ 50,000,000	\$ 2,000,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -
مناسب کرائے کا پروگرام	\$ 250,000,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
PREPS پروگرام	\$ 72,675,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بیرس کاؤنٹی	\$ 1,155,119,250	\$ 88,000,000	\$ 80,000,000	\$ 75,000,000	\$ 70,000,000
سٹی آف ہوسٹن	\$ 1,115,386,830	\$ 80,000,000	\$ 75,000,000	\$ 70,000,000	\$ 65,000,000
مقامی انفراسٹرکچر سے متعلق پروگرام	\$ 413,431,338	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	\$ 35,000,000	\$ 33,000,000
معاشی بحالی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ریاستی منصوبے کی ڈیلیوری	\$ 55,074,178	\$ 3,310,000	\$ 2,960,000	\$ 2,860,000	\$ 2,620,000
ریاستی منصوبہ بندی	\$ 137,685,446	\$ 2,500,000	\$ 3,000,000	\$ 12,000,000	\$ 15,000,000
ریاستی انتظامیہ	\$ 251,210,750	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000	\$ 13,000,000
کل جمع	\$ 5,024,215,000	\$ 336,810,000	\$ 305,960,000	\$ 290,860,000	\$ 268,620,000
باقی فنڈز		\$ 2,217,755,000	\$ 1,911,795,000	\$ 1,620,935,000	\$ 1,352,315,000

بروگرام	بروگرام کی تفویض کاری	2022			
		Q1	Q2	Q3	Q4
مالک مکان کی معاونت کا پروگرام	\$ 1,048,011,316	\$ 50,000,000	\$ 45,000,000	\$ 40,000,000	\$ 40,000,000
مقامی خرید/حصول کا پروگرام	\$ 275,620,892	\$ 17,000,000	\$ 15,000,000	\$ 13,000,000	\$ 10,000,000
مالک مکان کو واپس ادائیگی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بے گھر ہونے کی روک تھام کا پروگرام	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
مناسب کرائے کا پروگرام	\$ 250,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PREPS پروگرام	\$ 72,675,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بیرس کاؤنٹی	\$ 1,155,119,250	\$ 65,000,000	\$ 55,000,000	\$ 45,000,000	\$ 40,000,000
سٹی آف ہوسٹن	\$ 1,115,386,830	\$ 60,000,000	\$ 55,000,000	\$ 45,000,000	\$ 40,000,000
مقامی انفراسٹرکچر سے متعلق پروگرام	\$ 413,431,338	\$ 30,000,000	\$ 25,000,000	\$ 19,000,000	\$ 15,000,000
معاشی بحالی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ریاستی منصوبے کی ڈیلیوری	\$ 55,074,178	\$ 2,480,000	\$ 2,240,000	\$ 1,880,000	\$ 1,740,000
ریاستی منصوبہ بندی	\$ 137,685,446	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000
ریاستی انتظامیہ	\$ 251,210,750	\$ 12,000,000	\$ 12,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
کل جمع	\$ 5,024,215,000	\$ 251,480,000	\$ 224,240,000	\$ 185,880,000	\$ 168,740,000
باقی فنڈز		\$ 1,100,835,000	\$ 876,595,000	\$ 690,715,000	\$ 521,975,000

بروگرام	بروگرام کی تفویض کاری	2023			
		Q1	Q2	Q3	Q4
مالک مکان کی معاونت کا پروگرام	\$ 1,048,011,316	\$ 25,000,000	\$ 20,000,000	\$ 15,000,000	\$ 8,000,000
مقامی خرید/حصول کا پروگرام	\$ 275,620,892	\$ 7,000,000	\$ 5,000,000	\$ 3,000,000	\$ 2,000,000
مالک مکان کو واپس ادائیگی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بے گھر ہونے کی روک تھام کا پروگرام	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
مناسب کرائے کا پروگرام	\$ 250,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PREPS پروگرام	\$ 72,675,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بیرس کاؤنٹی	\$ 1,155,119,250	\$ 35,000,000	\$ 30,000,000	\$ 20,000,000	\$ 16,000,000
سٹی آف ہوسٹن	\$ 1,115,386,830	\$ 35,000,000	\$ 30,000,000	\$ 20,000,000	\$ 16,000,000
مقامی انفراسٹرکچر سے متعلق پروگرام	\$ 413,431,338	\$ 12,000,000	\$ 10,000,000	\$ 7,000,000	\$ 5,000,000
معاشی بحالی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ریاستی منصوبے کی ڈیلیوری	\$ 55,074,178	\$ 1,240,000	\$ 1,020,000	\$ 800,000	\$ 700,000
ریاستی منصوبہ بندی	\$ 137,685,446	\$ 10,000,000	\$ 8,000,000	\$ 5,000,000	\$ 4,000,000
ریاستی انتظامیہ	\$ 251,210,750	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000
کل جمع	\$ 5,024,215,000	\$ 133,240,000	\$ 112,020,000	\$ 77,800,000	\$ 58,700,000
باقی فنڈز		\$ 388,735,000	\$ 276,715,000	\$ 198,915,000	\$ 140,215,000


بروگرام	بروگرام کی تفویض کاری	2024			
		Q1	Q2	Q3	Q4
مالک مکان کی معاونت کا پروگرام	\$ 1,048,011,316	\$ 6,000,000	\$ 5,000,000	\$ 4,000,000	\$ 3,011,316
مقامی خرید/حصول کا پروگرام	\$ 275,620,892	\$ 1,000,000	\$ 500,000	\$ 120,892	\$ -
مالک مکان کو واپس ادائیگی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بے گھر ہونے کی روک تھام کا پروگرام	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
مناسب کرائے کا پروگرام	\$ 250,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PREPS پروگرام	\$ 72,675,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
بیرس کاؤنٹی	\$ 1,155,119,250	\$ 14,000,000	\$ 12,000,000	\$ 8,000,000	\$ 3,869,250
سٹی آف ہوسٹن	\$ 1,115,386,830	\$ 14,000,000	\$ 12,000,000	\$ 10,000,000	\$ 5,136,830
مقامی انفراسٹرکچر سے متعلق پروگرام	\$ 413,431,338	\$ 3,000,000	\$ 2,000,000	\$ 1,000,000	\$ 431,338
معاشی بحالی کا پروگرام	\$ 100,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ریاستی منصوبے کی ڈیلیوری	\$ 55,074,178	\$ 600,000	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 445,678
ریاستی منصوبہ بندی	\$ 137,685,446	\$ 3,000,000	\$ 2,500,000	\$ 2,000,000	\$ 1,685,446
ریاستی انتظامیہ	\$ 251,210,750	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 6,000,000	\$ 5,960,750
کل جمع	\$ 5,024,215,000	\$ 47,600,000	\$ 40,500,000	\$ 31,620,892	\$ 20,540,608
باقی فنڈز		\$ 92,661,500	\$ 52,161,500	\$ 20,540,608	\$ -

تخمینه کرده بقیه فنڈز



موجودہ

پروگرام کی جانب سے تخمینہ کردہ اخراجات



X. ضمیمہ E: مشاورتیں

مقصد / فریقین کردہ نمائندگی	میٹنگ	تاریخ
نقصان کردہ جائزہ	کرستی کورپس ٹاؤن، روبز لواکا، پورٹ	29/08/2017
کا علاقوں شدہ تباہ ہمراہ کے حکام شدہ منتخب گیا کیا دورہ	ارنساس پورٹ شہر	30/08/2017
معائنہ کا شہر لیے کے ضروریات کی بحالی	شہر کرستی کورپس	31/08/2017
کے ہاؤسنگ المدتی طویل کی CDBG-DR پر ہاؤسنگ مدتی مختصر کی FEMA ہمراہ مشاورت	برائن او وٹ گیئر، براڈ	01/09/2017
کے ہاؤسنگ المدتی طویل کی CDBG-DR پر ہاؤسنگ مدتی مختصر کی FEMA ہمراہ مشاورت	لوزیانہ - شیلٹر میں گھر	02/09/2017
کمیونٹی اور ہاؤسنگ آف ڈیپارٹمنٹ ٹیکساس افریز	اسٹن - سماعت کی کمیٹی افریز اربن میں ہاؤس	07/09/2017
بحالی بحث زیر کی باروے طوفان	سیڈ ایبل ٹیکساس	08/09/2017
شہر ہوسٹن کاؤنٹی، بیرس	باروے طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ٹیکساس	9/12/2017
کی پروگرام CDBG-DR اور سیشن سماعتی معلومات	ہوسٹن - وفد ریاستی	9/12/2017
معلومات کی نقصان	شہر ہوسٹن	9/12/2017
CDBG-DR لے کے کاری تفویض باروے ممکنہ، TCEQ TWDB خیال؛ تبادلہ پر فنڈز DR، داری شراکت ریاستی اور وفاقی دیگر	کمیٹی کوارڈینیشن انفراسٹرکچر واٹر ٹیکساس	13/09/2017
علاقے قریبی متعدد متاثرہ سے سیلاب	شہر ہوسٹن - ہال ٹاؤن اولسن پیٹے مین کانگریس	13/09/2017
پروگراموں CDBG-DR اور FEMA ضلع، خیال تبادلہ پر ضروریات کی بحالی کی اہلیت اور	ملاقات میں دفتر کے کلبرسن مین کانگریس	13/09/2017
پروگراموں CDBG-DR اور FEMA ضلع، خیال تبادلہ پر ضروریات کی بحالی کی اہلیت اور	ملاقات میں کے دفتر کے کورین سینیٹر	13/09/2017
ضروریات کی ہاؤسنگ کردہ خیال تبادلہ	کاؤنٹیز پیٹریشیو سان اور نیوسیس	14/09/2017
بحالی بحث زیر کی باروے طوفان	ملاقات ساتھ کے وائٹ جیمز نمائندے ریاستی	15/09/2017

09/18/2017	ہاروے طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ٹیکساس	اورنج شہر، آر تھر کا پورٹ کاؤنٹی، جیفرسن کی NFIP میں ضمن کے سٹی اورنج کاؤنٹی، لنے کے پروگراموں FEMA بندی، درجہ ہاؤسنگ تیز اور ضروریات، کی مماثلت خیال تبادلہ پر پروگرامز
09/18/2017	ملاقات ساتھ کے وفد ٹیکساس	بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان
22/09/2017	مشرقی جنوب ہمار کے کارسن سیکرٹری HUD ٹیکساس	کی فنڈز کاری، تخفیف مولڈ، میں یونٹس کردہ تہہ خیال تبادلہ پر تقسیم مساوی
22/09/2017	بورڈ کونسلز علاقائی برائے ایشن ایسوسی ٹیکساس ڈائریکٹرز آف	تبادلہ پر 2016 اور 2015 بحالی سے ہاروے خیال
26/09/2017	ملاقات ساتھ کے وفد ٹیکساس	ہاروے طوفان متعلقہ سے اونچائی اور خریداری خیال تبادلہ پر بحالی سے
27/09/2017	ہوسٹن - ہال ٹاؤن اولسن پیٹے مین کانگریس	متاثرہ سے سیلاب مسلسل میں ہوسٹن شمالی بحالی سے ہاروے طوفان متعلقہ لیے کے علاقوں خیال تبادلہ پر
09/28/2017	ہاروے طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ٹیکساس	اور شہر، لیک سوئر شہر، لیبرٹی کاؤنٹی، لیبرٹی کے کرنے فوری کور بحالی نے کاؤنٹی پارٹن ضرورت، ضرورت کی اصولوں چند لیے لیے کے تلافی زر کی نقصان اور اخراجات مزید پر سائنس ویب اور اجازت، کو چرچز کیا خیال تبادلہ میں ضمن کے تفصیلات
02/10/2017	شہر ہوسٹن - سماعت کی کمیٹی ملحقہ کی ہاؤس	بینڈ فورٹ ہوسٹن، کاؤنٹی، بیرس
03/10/2017	ہوسٹن ویسٹ - ہال ٹاؤن گورنرز لیفٹنٹ	بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان
10/04/2017	لیک کلیئر - ہال ٹاؤن کا گورنر لیفٹنٹ (کاؤنٹیز گالویسٹن/بیرس)	بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان
10/04/2017	شہر ٹاؤن بے	سے تخفیف میں سیلاب اور ہاؤسنگ خریداری، خیال تبادلہ پر بحالی سے ہاروے طوفان متعلقہ
06/10/2017	کمیشن یوٹیلیٹیز پبلک	ضروریات شدہ جائزہ لیے کے بحالی
09/10/2017	کاؤنٹی گالویسٹن	معائنہ کا وے واٹر انٹرکوسٹل گلف
09/10/2017	ہاروے طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ٹیکساس	پاس ارنساس کاؤنٹی، ارنساس شہر، پورٹ راک اور شہر، لوکا پورٹ شہر، ریویجیو شہر، بوئے کھوئے 600 کچرے، میں شہر وکٹوریہ انتہائی اور مسائل انشورینس مولڈ، اپارٹمنٹس، خیال تبادلہ پر ضرورت کی سسٹمز

10/10/2017	ہاروے طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ٹیکساس	کاؤنٹی، بریزوریا کاؤنٹی، میٹاگورڈا شہر، وبارٹن اور شہر، انگلیٹن سٹی، بے شہر، لینڈ شوگر کی مماثلت مسٹر دگیوں، کی FEMA شہر ڈکنسن LMI نان تقاضے، کے پروکیورمنٹ ضرورت، پر ڈسٹریبیوشن کی فنڈ اور مالکان گھریلو متاثرہ خیال تبادلہ
11/10/2017	بیورو کا جیوگرافی معاشی	اثرات اور ڈیٹا کا ہاروے طوفان
11/10/2017	ہاروے طوفان کا گورنر اور نو تعمیر کی ٹیکساس	اورنج آر تھر، پورٹ انابواک، لیبرٹی، کونٹزے، تمام Hwy 87 انفراسٹرکچر، کچرے، میں پر فنڈز لیے کے نکاسی اور کاؤنٹیز اور شہروں خیال تبادلہ
13/10/2017	آغاز کا ہاروے طوفان DETCOG	ہاؤسنگ مدتی مختصر اور ضروریات کی علاقے خیال تبادلہ پر ضروریات کی
16/10/2017	عملہ کانگریسی میں آفس فیلڈ جوائنٹ	پروگرامز دونوں FEMA اور CDBG-DR معلومات کی پروگرام لیے کے
16/10/2017	ہیلتھ کرائسٹس	ہاؤسنگ کی علاقے بیومونٹ اور آر تھر پورٹ خیال تبادلہ پر ضروریات کی صحت اور
18/10/2017	آغاز کا ہاروے طوفان HGAC	ہاؤسنگ مدتی مختصر اور ضروریات کی علاقے خیال تبادلہ پر ضروریات کی
20/10/2017	آغاز کا ہاروے طوفان SETRPC	ہاؤسنگ مدتی مختصر اور ضروریات کی علاقے خیال تبادلہ پر ضروریات کی
20/10/2017	آغاز کا ہاروے طوفان CBCOG	ہاؤسنگ مدتی مختصر اور ضروریات کی علاقے خیال تبادلہ پر ضروریات کی
23/10/2017	المدتی طویل و مختصر اور بک پلے راست براہ مواقع کے ہاؤسنگ	بحالی المدتی طویل
24/10/2017	TX اسٹن - سماعت کی کمیٹی فنانس سینٹ	سروسز، ہیلتھ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ، ملٹری ٹیکساس حکام تعلیمی ٹیکساس
25/10/2017	ہلڈرز برائے ایشن ایسوسی ٹیکساس	فلٹ اور دستیابی ذرائع، بحث زیر
25/10/2017	ہنٹر ٹوڈ نمائندہ ریاستی	بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان
26/10/2017	آغاز کا ہاروے طوفان CAPCOG	ہاؤسنگ مدتی مختصر اور ضروریات کی علاقے خیال تبادلہ پر ضروریات کی
27/10/2017	فورس ٹاسک ہاؤسنگ مشترکہ	بحالی بحث زیر کی ہاروے طوفان

تبادلہ پر حل اور ضروریات کی افراد گھر بے خیال	True Casa اور ورک نیٹ کا افراد گھر بے ٹیکساس ملاقات ساتھ کے Consulting	02/11/2017
بحالی بحث زیر کی باروے طوفان	ٹیکساس آف ایشن ایسوسی پلاننگ امریکن (Conference for American Planning Association of Texas)	03/11/2017
کی جھیل ڈکنسن اور بحالی سے باروے طوفان خیال تبادلہ پر شاخ	شہر ڈکنسن	03/11/2017
خیال تبادلہ پر پروگرامز ممکنہ اور انوبٹری	ایشن ایسوسی اپارٹمنٹ ٹیکساس	06/11/2017
شہر، کرسٹی کورپس شہر، ارنساس پورٹ ریفریوجیو سسٹم، ہیلتھ کرسٹس کاؤنٹی، ارنساس کاؤنٹی وبارٹن، ISD، ٹافٹ شہر، فلٹن، سان اور کاؤنٹی، نیوسیس، TEA، کالج، جونینر کاؤنٹی پیٹریشیو	TX کرسٹی، کورپس - سماعت کی قبضوں کے گھر	08/11/2017
اور ڈیٹا کا ہوسٹن اور بحالی، سے باروے طوفان خیال تبادلہ پر نوٹس شدہ تباہ	شہر ہوسٹن	09/11/2017
بحالی بحث زیر کی باروے طوفان	کاؤنٹی بیرس	10/11/2017
بحالی بحث زیر کی باروے طوفان	کاؤنٹی وکٹوریا	16/11/2017
ضروریات کی عملے اور پلاننگ کی بحالی آفت	میٹنگ GCRPC	16/11/2017
ضروریات کردہ لیوریج اور فنڈڈ CDBG-DR خیال تبادلہ پر استعمال کے	انشورینس اور مینیجمنٹ کی میدان سیلابی FEMA	17/11/2017
بحالی بحث زیر کی باروے طوفان	کاؤنٹی چیمبیرز	21/11/2017
متعلقہ سے مرمتیوں کی سڑک اور ہاؤسنگ خیال تبادلہ پر بحالی سے باروے طوفان	کاؤنٹی نیوٹن	21/11/2017
کی شہر متعلقہ سے بحالی سے طوفان باروے خیال تبادلہ پر ضروریات	ٹیبل راؤنڈ شہر مونڈرچ	28/11/2017
خیال تبادلہ پر بحالی کی باروے طوفان	کاؤنٹی بینڈ فورٹ	28/11/2017
ہاؤسنگ مدتی مختصر اور ضروریات کی علاقے خیال تبادلہ پر ضروریات کی	آغاز کا GCRPC	29/11/2017
خیال تبادلہ پر پروگرامز دستیاب	پناہ جانے لیے کے انسانیت	29/11/2017
ضمن کے ضروریات اور کوششوں کی بحالی ڈیٹ اپ میں	ویبر ریڈی مین کانگریس	30/11/2017

شہر اتھارٹی، ہاؤسنگ پبلک کرسٹی کورپس فلٹن پاس، شہر ارنساس پورٹ ارنساس، پورٹ شہر، کرسٹی کورپس شہر، انگلیسائیڈ شہر، شہر پورٹ راک اور کاؤنٹی، ارنساس	کورپس - سماعت کی کمیٹی افیئرز اربن ہاؤس TX کرسٹی،	04/12/2017
خیال تبادلہ پر تعلیم اور ضروریات کی بحالی	وفد کا پاس شہر ارنساس	06/12/2017
شہر پورٹ راک اور شہر، فلٹن کاؤنٹی، ارنساس مسائل، کے پرمٹ ضروریات، کی کاؤنٹی اور آپریشنز، کے کچرے ضروریات، رہائشی تبادلہ پر مساوات میں کاری تفویض کی فنڈنگ خیال	کاؤنٹی ارنساس - ٹیم سٹرائیک ہاؤسنگ	07/12/2017
پروگرامز شدہ منصوبہ اور ضروریات کی ہوسٹن خیال تبادلہ پر	شہر ہوسٹن	07/12/2017
لیے کے AFFH سے جانب کی ایجنسیز ریاستی عملی حکمت کلپتی	گروپ ورک ہاؤسنگ فینر سٹیٹ	12/12/2017
کاؤنٹی، جیفرسن شہر، بیومونٹ شہر، گالویسٹن سوئر، HGAC کاؤنٹی، ہارڈین کاؤنٹی، اورنج ویڈور اور شہر، اورنج شہر، انابواک شہر، لیک شہر	بیومونٹ - سماعت کی کمیٹی افیئرز اربن میں ہاؤس	13/12/2017
ممکنہ اور ضروریات کی پروگرام والے آنے خیال تبادلہ پر انویٹری	بلٹرز برائے ایشن ایسوسی ٹیکساس	14/12/2017
کی دونوں عملے کے پروگرام اور متاثرین غور پر ضروریات	ریاستی کا مشاورت میں بحران کے باروے طوفان پروگرام	15/12/2017
خیال تبادلہ پر ابتدائیوں کے افراد گھر بے	افیئرز کمیونٹی اور ہاؤسنگ آف ڈیپارٹمنٹ ٹیکساس	18/12/2017
کی اہلیت دیگر اور معاہدے پیشگی ڈسٹرکٹ، خیال تبادلہ پر ضروریات	وائٹ جیمز نمائندہ ریاستی	18/12/2017
خیال تبادلہ پر ضروریات کی فیملی ملٹی	شہر ہوسٹن	18/12/2017
گواہی عدالتی کا کمشنر کاؤنٹی نیوسیس	کاؤنٹی نیوسیس	19/12/2017
پیٹریشیو سان ارنساس، پورٹ کاؤنٹی، نیوسیس کورپس شہر، فلٹن پاس، سٹی ارنساس کاؤنٹی، شہر پورٹ راک اور شہر، کرسٹی	- سماعت کی کمیٹی مینجمنٹ ریسورس اینڈ لینڈ ہاؤس TX کرسٹی، کورپس	20/12/2017
ضروریات کی کنندگان وصول ذیلی اور پروگرام خیال تبادلہ پر	سروسز کی معلومات ہاؤسنگ آمدن کم ٹیکساس	22/12/2017
فنڈز، خیال تبادلہ پر بحالی سے باروے طوفان اور ضروریات کی ہاؤسنگ کاری، تخفیف خیال تبادلہ پر سیاحت	کاؤنٹی نیوسیس	03/01/2018

04/01/2018	شہر ہوسٹن	تفویض ڈائریکٹ بحالی، سے ہاروے طوفان اور خریداری، GLO میں MOD کاری، خیال تبادلہ پر دہرائی کی مراعات
04/01/2017	شہر کے اورنج اور بیومونٹ	اور یونٹس 80 شدہ تباہ کے سائٹ فیملی ملٹی معائنہ کا علاقوں دیگر
05/01/2018	ملاقات ساتھ کے Quicken Loans	کی مسائل انشورینس اور جاتی قرضہ گھریلو خیال تبادلہ پر ضروریات
08/01/2017	SETRPC	کے تیاری ضروری اور بحالی المدتی طویل خیال تبادلہ سے حوالے
09/01/2018	شہر گالویسٹن	خیال تبادلہ پر بحالی کی ہاروے طوفان
11/01/2018	ایڈمنسٹریشن بزنس کی ایجنسی میں ریاست ٹیکساس کیرویلے، - کانفرنس (TSABAA) ایشن ایسوسی TX	کے تصور اور حالت کی پروگرام ہاؤسنگ لیے کے ایجنسیز رہائشی دیگر سے حوالے معلومات
12/01/2018	ٹیکساس اور (Aransas County) کاؤنٹی ارنساس Appleseed	پر AFFH اور ضروریات کی بحالی کی کاؤنٹی خیال تبادلہ
12/01/2018	TX بیومونٹ، - سماعت کی کمیٹی ملحقہ کی ہاؤس	کاؤنٹی، اورنج کاؤنٹی، جیفرسن شہر، بیومونٹ ہیٹسہ کاؤنٹی، ہارڈین سسٹم، ہیلتھ ہرمین میموریل شہر ویڈور اور کاؤنٹی چیمپیئرز اورنج، ہسپتال،
17/01/2018	الائنس HOPE NOW	خیال تبادلہ پر بچاؤ سے ضبطگی جائیداد
18/01/2018	TX ہوسٹن، - سماعت کی کمیٹی افیئرز اربن ہاؤس	کاؤنٹی، بیرس شہر، گالویسٹن شہر، ہوسٹن اور Habitat for Humanity ہوسٹن، HGAC Housers ٹیکساس
18/01/2018	- سماعت کی کمیٹی اصولی اور تفتیش عمومی ہاؤس TX ہوسٹن،	کیٹھولک کاؤنٹی، بیرس گالویسٹن، ہوسٹن، چیریٹیٹرز
19/01/2018	چانسلرز سسٹم یونیورسٹی	خیال تبادلہ پر ضروریات کی پلاننگ
23 جنوری 2018	کاؤنٹی پیٹریشیو سان - ٹیم سٹرائیک ہاؤسنگ	شہر، بے دی ان انگلیسانیڈ کاؤنٹی، پیٹریشیو سان پورٹ شہر، سنٹن، PHA کاؤنٹی پیٹریشیو سان پاس ارنساس، EDC پیٹریشیو سان شہر، لینڈ آف چیمبر انگلیسانیڈ اور کامرس، آف چیمبر پبلک مسائل، کے صلاحیت مقامی میں کامرس بیوشن، ڈسٹری کی فنڈ ضروریات، کی ہاؤسنگ تبادلہ پر کاری تخفیف اور ہاؤسنگ، کی آمدن کم خیال

خیال تبادلہ پر بحالی کی باروے طوفان	- سیشن Q&A تھولڈ فیرن بلیک مین کانگریس TX کر سٹی، کورپس	26/01/2018
میں بورڈ بجٹ ساز قانون اور کمپٹرولر ٹیکساس خیال تبادلہ پر بحالی سے باروے طوفان	TX آسٹن - سماعت کی کمیٹی فنانس سینٹ	30/01/2018
لیے کے دونوں المدتی طویل اور مدتی مختصر خیال تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ	کاؤنٹی ہارڈین	30/01/2018
Q&A اور معلومات کی باروے طوفان	بورڈ کونسلز علاقائی برائے ایشن ایسوسی ٹیکساس ڈائریکٹرز آف	01/02/2018
حقوق، کے بحالی کی والوں جانے بچ سے طوفان خیال تبادلہ پر ابتدائے اور اصول،	سروسز کی معلومات ہاؤسنگ آمدن کم ٹیکساس	02/02/2018
فورسٹ رومن ویلیج، پیٹن کاؤنٹی، منٹگمری میں وے یونائیٹڈ اور شپ، ٹاؤن ووڈلینڈز شہر، تیزی میں رفتار کی بحالی ضروریات، کی نکاسی مساویانہ کی ایک ہر ہاؤسنگ، ضرورت، کی کی مماثلت سے CDBG بنانے، یقینی کو شرکت خیال تبادلہ پر خریداریوں اور ضرورت	کاؤنٹی منٹگمری - ٹیم سٹرائیک ہاؤسنگ	05/02/2017
خیال تبادلہ پر پراجیکٹس ممکنہ	اودیون	06/02/2018
سٹی، لیگ شہر، فرینڈز وڈ کاؤنٹی، گالویسٹن گالویسٹن شہر، کیمرہ شہر، مارک لا شہر، ڈکنسن سٹی، ٹیکساس شہر، کا کناروں لیک کلیئر شہر، سے حوالے کے H-GAC اور شہر، فے سانتا کا سیلاب مسلسل کرنے، تیز کوششیں کی بحالی مسائل، کے نکاسی میں کناروں کے جھیل شکار خیال تبادلہ پر وسائل اضافی دیگر کے وفاق	کاؤنٹی گالویسٹن - ٹیم سٹرائیک ہاؤسنگ	07/02/2018
کا پروگرامز لیے کے بحالی سے باروے طوفان بندی منصوبہ کی	سالانہ ادارے کاروباری برائے ایشن ایسوسی ٹیکساس کانفرنس	09/02/2018
خیال تبادلہ پر تقاضوں کے پروگرام	ڈویلپمنٹ اور پلاننگ کمیونٹی HUD	12/02/2018
کاؤنٹی، اورنج کاؤنٹی، جیفرسن کاؤنٹی، ہارڈین میں بحالی آفت کنٹری ٹرائی اور شہر، بیومونٹ کی کمیونٹیز ضرورت، کی بحالی جلد از جلد اترنے پورا پر اشتراک کے لاگت FEMA PA علاقائی اور مجموعی اور اہلیت، عدم کی خیال تبادلہ پر ضروریات کی ہاؤسنگ	اورنج اور ہارڈین، جیفرسن، - ٹیم سٹرائیک ہاؤسنگ کاؤنٹیز	13/02/2018
والے ہونے نہ زدہ سیلاب پہلے میں دریا برازوس خیال تبادلہ میں ضمن کے سیلاب میں علاقوں	کامرس آف چیمبر آلوین	13/02/2018

14/02/2018	ہال ٹاؤن لیے کے شہر لمبرٹن اور کاؤنٹی نیوٹن	Q&A متعلقہ سے پروگرامز
14/02/2018	ٹیکساس آر تھر، پورٹ - ٹیم سٹرائیک ہاؤسنگ	پورٹ، EDC آر تھر پورٹ شہر، آر تھر پورٹ کی ہاؤسنگ میں اتھارٹی ہاؤسنگ آر تھر کی بحالی اجتماعی کی کمیونٹی ضروریات، غور زیر کے ضبطگی کی جائیداد ضرورت، پر تقسیم کی فنڈز اور گھر، متاثرہ 80% مسائل، خیال تبادلہ
15/02/2018	کاؤنٹیز جیسپر اور نیوٹن - ٹیم سٹرائیک ہاؤسنگ	DETCOG اور کاؤنٹی، جیسپر کاؤنٹی، نیوٹن تبخیر اور ہاؤسنگ جگہوں، متاثرہ مسلسل میں خیال تبادلہ پر ضروریات کی
16/02/2018	میٹنگ کی عملے کے نیلسن جین سینیٹر کے ریاست	پر اہلیت کی استعمال کے فنڈز CDBG-DR خیال تبادلہ
20/02/2018	TX اسٹن - سماعت کی کمیٹی فنانس سینٹ	ضمن کے ضروریات اور کوششوں کی بحالی ڈیٹ اپ میں
20/02/2018	ٹیبل راؤنڈ کی جات قصبہ	تفویض کی مستقبل پروگرامز، پلان ایکشن ضروریات LMI نان اور سیلاب مسلسل کاریاں، خیال تبادلہ پر
20/02/2018	ارنساس - پریزنٹیشن کی ہاؤسنگ داری کرایہ قیمت کم کاؤنٹی	اور ضروریات کی ہاؤسنگ داری کرایہ قیمت کم خیال تبادلہ پر پروگرامز
23/02/2018	کاؤنٹی ارنساس	خیال تبادلہ پر ضروریات کی بحالی
23/02/2018	شہر لینڈز ووڈ	کے پلاننگ کی نکاسی میں کریک سپرنگ خیال تبادلہ پر مطالعے
26/02/2018	UHD بعد مہینے 6 بحالی، کی ہاروے میں ہوسٹن خیال تبادلہ ٹیبل راؤنڈ میں	دار- عہدے کے شہر ہوسٹن اور FEMA کے ثالث اور علم طالب میں ہوسٹن KTRK جوابات کے سوالات
27/02/2018	کمیٹی سٹیرنگ ایجنسی انٹر علاقائی	ذرائع متعدد کے فنڈنگ سے حوالے کے بحالی خیال تبادلہ پر مواقع کے استعمال کے
01/03/2018	کاؤنٹی وہارٹن - ٹیم سٹرائیک ہاؤسنگ	کاروباری جگہوں، سیلابی مسلسل اپارٹمنٹس، خیال تبادلہ پر ضرورت لیے کے ضروریات
02/03/2018	شہر ہوسٹن	خیال تبادلہ پر پروگرامز اور پلان ایکشن

06/03/2018	كونسل انوویشن ٹرانسپورٹیشن کی ٹیکساس ریاست	پریزنٹیشن کی پروگرام CDBG-DR باروے
06/03/2018	کاؤنٹی بیرس	خیال تبادلہ پر پروگرامز اور پلان ایکشن
07/03/2018	کاؤنٹی بیرس	صلاحیت، کی کاؤنٹی پروگرامز، اور پلان ایکشن خیال تبادلہ پر کاری تفویض ڈائریکٹ اور
08/03/2018	ٹیکساس ہوسٹن - مینیجمنٹ ریسورس اور لینڈ ہاؤس	ڈکنسن اور ہوسٹن، کاؤنٹی، چیمبر کاؤنٹی، بیرس شہر
09/03/2018	شہر ہوسٹن	پروگرامز اور جائزہ کا ضروریات پلان، ایکشن خیال تبادلہ پر
14/03/2018	واشنگٹن - HUD اور کاؤنٹی، بیرس شہر، ہوسٹن D.C.	زیر میں HUD اور کاؤنٹی، بیرس شہر، ہوسٹن کے بحالی اور ضروریات نامکمل بحث پروگرامز

XI. ضمیمہ F: تقسیم کاریوں کے علاقائی طریقے

A. ریاستی ہاؤسنگ پروگرامز کی تفویض کاریاں

طوفان ہاروے ہاؤسنگ تفویض کاری کے تجزیے
پروفیسر پیٹرک بروکٹ، راجیو گارگ، لنڈا گولڈن، جیمز نولن اور ایسا والچ
یونیورسٹی آف ٹیکساس بمقام آسٹن، 27 مارچ 2018

ریاستی گھریلو مالکان کی معاونت کا پروگرام اور مقامی خریداری/حصول کاری پروگرام کی تفویض کاریاں

ان کاؤنٹیز اور ZIP کوڈز کی فہرست جو HUD کی فنڈنگ تفویض کاری کا کم از کم 80% وصول پائیں گے، اور HUD فنڈنگ کا 20% وصول کرنے والی بقیہ کاؤنٹیز فیڈرل رجسٹر (فیڈرل رجسٹر/جلد 83، نمبر / 28 جمعہ، 9 فروری 2018 /نوٹسز (میں مذکور کی گئی ہیں۔) کاؤنٹیز اور زپ کوڈز کی ذیلی گروپنگ کو ریاستی گھریلو مالکان کی معاونت کے پروگرام اور مقامی خریداری/حصول کاری کے پروگرام کی سپریڈ شیٹس میں نتائج کی عددی تفویض کاری کے عمل میں یکجا کر دی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر یہاں 16 کاؤنٹیز اور 11 زپ کوڈز انتہائی متاثرہ اور تباہ شدہ "کے طور پر مذکور ہیں۔ یہ HUD کی 80% تفویض کاری گروپ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چونکہ پیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر علیحدہ تفویض کاری وصول پا رہے ہیں، ان کا ڈیٹا) اور تفویض کاریاں (ذیل میں مذکور تجزیوں میں شامل نہیں کیے گئے۔

گھریلو مالکان کی معاونت کے پروگرام اور مقامی خریداری/حصول کاری پروگرام کی تفویض کاری گروپ کا 80% HUD کی جانب سے 9 فروری 2018 کے فیڈرل رجسٹر میں درکار ہے۔

کاؤنٹی کی آبادیاں US مردم شماری 2016 کے اپ ڈیٹ سے حاصل کی گئی ہیں³³۔ کاؤنٹی کیے مطابق ترتیب کردہ مخصوص آبادیوں کے زپ کوڈز امریکی مردم شماری کے محکمے کے 2010 سے کاؤنٹی یا ٹیکساس کے 5 عددی زپ کوڈ جدول کاری علاقہ (ZCTA) کے اندر حصے کے لیے کل آبادی کے دس سالہ اعداد و شمار کو استعمال کرتے ہوئے لیے گئے³⁴۔

گھریلو مالکان کے لیے گھروں کی اوسط قیمتیں امریکی مردم شماری کے ریاستی اور کاؤنٹی ہاؤسنگ یونٹ کے تخمینے سے حاصل کی گئیں³⁵۔ کرایہ داروں کے لیے گھر کی قیمت '35'x'24 کے فٹ پرنٹ کے حامل 861 سکوائر فٹ کے کرائے کے یونٹ کے لیے تعمیراتی لاگت کی بنیاد پر رکھی گئی۔ ان تعمیراتی لاگتوں کی ملک بھر میں فی یونٹ \$64,575 تا \$86,100 رینج ہے³⁶۔ \$75,337.50 کا وسطی نقطہ کرایہ دار کی نامکمل ضروریات کا حساب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کیلکولیشن کے لیے دستیاب انتہائی معقول ڈیٹا استعمال کیا گیا۔

³³ <https://www.census.gov/search>

results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0
&search=submit

³⁴ <https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t>

کے طور پر جاری کیا گیا: (1) "تمام جیوگرافک اقسام" پر کلک کریں (2) "جیوگرافک قسم منتخب کریں" - "کاؤنٹی (یا جز) - 880" منتخب کریں، (3) "ٹیکساس" منتخب کریں، (4) 5 عددی زپ کوڈ کا جدول کاری ایریا منتخب کریں۔ متعدد کا انتخاب کریں ("Ctrl" کو دبانا برقرار رکھیں اور زپ اور کاؤنٹی پر کلک کریں۔ متعدد زپ شامل کر سکتے ہیں)، (5) "اپنے انتخاب میں شامل کریں"، (6) "موضوعات" - "لوگ" - "بنیادی شمار/تخمینہ" - "کل آبادی" پر کلک کریں، (7) "ID" PI "چیک باکس پر کلک کریں، (8) "ٹیبیل دیکھیں" پر کلک کریں، (9) ڈیٹا ٹیبیل ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے "ڈاؤن لوڈ" پر کلک کریں۔

³⁵ <https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/PST045216>

³⁶ <https://www.fixr.com/costs/build-apartment>

FEMA کی تصدیق شدہ نامکمل ضرورت کا شمار) گھریلو مالکان اور کرایہ دار دونوں کے لیے FEMA (انفرادی معاونت (IA) کے 2 فروری 2018 تک کے رجسٹرڈ ڈیٹا کی جانب سے فراہم کیے گئے تھے۔ FEMA کی جانب سے ان نامکمل ضروریات کے ڈیٹا) اہم-کم نقصان کی شدت، اہم-زیادہ نقصان کی شدت، اور شدید نقصان (کی مخلوط زمرہ بندی کے لیے استعمال کیا گیا نقصان کے شدت کے لیول کے نقطہ آغاز میں HUD کے "انتہائی متاثرہ کا طریقہ" کے طریقہ کار اور HUD شدت کے زمرہ جات میں ہر مندرج کے لیے FEMA کے تصدیق شدہ نقصان (FVL) ڈالر رقم کے حصوں کا استعمال کیا گیا۔

سپر یڈ شیٹ کا کالم جس میں ہر جیوگرافی) کاؤنٹی یا زپ کوڈ (کے لیے نامکمل ضرورت کی حساب کردہ ڈالر رقم نے اپنی قدر HUD نقصان کی شدت کی لیول کے زمرہ جات اور FEMA کی جانب سے HUD کے تین مجوزہ شدت کے لیولز کے لیول میں نقصان کا سامنا کرنے والے ہاؤسنگ یونٹس کی تعداد کا شمار، کاؤنٹی اور کرایہ دار بمقابلہ گھریلو مالکان کی مخلوط زمرہ بندی کو استعمال کرتے ہوئے اخذ کیا ہے۔ HUD طریقہ گھریلو مالکان کے لیے شدت کے تین زمرہ جات میں سے ہر ایک میں نامکمل ضرورت کے لیے مالیاتی ضارب کی قیمت فراہم کرتا ہے، جہاں اہم-کم نقصان کی شدت کے زمرہ کے ساتھ منسلک نامکمل ضرورت کا ضارب \$72,961 ہے اور شدید نقصان کی شدت کے زمرہ کے ساتھ منسلک نامکمل ضرورت کا ضارب \$102,046 ہے۔ "شدید" نقصان سے مراد تقریباً 100% نقصان ہے، یہ ہر شدت کے زمرے میں نامکمل ضرورت کے ضارب کو ہر زمرے کے لیے متعلقہ رہائشی یونٹ کے لیے تخمینہ کردہ نقصان کی شرح فیصد میں تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ چونکہ متاثرہ کاؤنٹیز میں گھر کی اوسط قیمتیں واضح طور پر مختلف ہیں اس لیے ایسے تبادلہ ضروری تھا۔

چنانچہ، نامکمل ضرورت کا کاؤنٹی یا زپ کوڈ میں گھر کی اوسط قیمت ضرب نقصان کی شرح فیصد کی بنیاد پر جائزہ لیا گیا تھا۔ اہم-کم نقصان کی شدت کی کیٹگری کے لیے یہ ہاؤسنگ یونٹ کی قیمت کی یہ شرح فیصد جہاں نامکمل ضرورت ڈھانچے کی قیمت کا $57.8\% = \$58,956 / \$102,046$ ہے۔ اہم-زیادہ نقصان کی شدت کی کیٹگری کے لیے یہ تباہ شدہ گھر کی قیمت کی یہ شرح فیصد جہاں نامکمل ضرورت $71.5\% = \$72,961 / \$102,046$ ہے۔ شدید نقصان کی کیٹگری کے لیے نتیجہ گھر کی قیمت یا اپارٹمنٹ کی تعمیراتی قیمت کا 100% ہے۔ ان شرح فیصد کا ہر کاؤنٹی یا زپ کوڈ میں ہاؤسنگ کی اوسط قیمت پر اطلاق کیا گیا، اور پھر ہر کاؤنٹی یا زپ کوڈ میں گھریلو مالکان کے لیے نامکمل ضرورت کے کیٹگری لیول کے ڈالر تخمینہ حاصل کرنے کے لیے گھریلو مالک کی زیر قبضہ نقصان کی شدت کی ہر کیٹگری میں تباہ ہونے والی پراپرٹیز کی تعداد سے ضرب دیتے ہوئے حاصل کی گئیں۔ یہ پھر کاؤنٹی یا زپ کوڈ میں گھریلو مالکان کے لیے نامکمل ضرورت کے کل تخمینہ کردہ ڈالرز تک پہنچنے کے لیے جمع کیے گئے۔

کرایہ داروں کے لیے بھی یکساں طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ HUD کا طریقہ کرایہ داروں کے لیے کرایہ دار کے FVL، ہمراہ ذاتی پراپرٹی کے نقصان پر مبنی کرایہ دار کے FVL کی بنیاد پر نقصان کی کیٹگری کا نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے۔ تاہم، HUD کا طریقہ کرایہ داروں کے لیے شدت کی کیٹگریز میں نقصان کے لیے ضارب بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح، گھریلو مالکان کے لیے استعمال کردہ سٹرکچر کو نقصان کی تخمینہ کردہ قیمت کی یکساں شرح فیصد کا اطلاق کرایہ دار کی نقصان کی شدت کی کیٹگریز (57.8%) برائے اہم-کم نقصان کی شدت کی کیٹگری، 71.5% برائے اہم-زیادہ نقصان کی شدت کی کیٹگری، اور 100% برائے شدید نقصان کی کیٹگری (پر بھی کیا گیا۔ جیسا کہ یہ گھریلو مالکان کے لیے تھا کرایہ داروں کے لیے کیلکولیشن کی بنیاد پر تباہ شدہ گھر کی اوسط قیمت کے بجائے، کرایہ داروں کے لیے '24x35' گھیراؤ کے حامل 861 سکوائر فیٹ کرائے کے یونٹ فراہم کرنے کی تعمیراتی لاگت کو بنیاد بنایا گیا۔ اس تعمیراتی لاگت کی سابقہ بیان کردہ طور پر ملک بھر میں رینج فی یونٹ \$64,575 تا \$86,100 ہے۔ دوبارہ \$75,337.50 کا وسطی نقطہ کرایہ داری یونٹ کے لیے کل نقصان کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا گیا، اور کرایہ داروں کے لیے ہر شدت کی کیٹگری میں اس بنیادی قدر کا اطلاق کیا گیا۔ شرح فیصد ضرب کرایہ داری یونٹ کی تعمیراتی لاگت کی قیمتیں شدت

کی کیٹگری میں ہر شدت کی کیٹگریز کرایہ داروں کے لیے نامکمل ضرورت کی قیمت حاصل کرنے کے لیے کرایہ داروں کی گنتی کے ساتھ ضرب دی گئی۔ شدت کی کیٹگریز میں جمع کرنے سے کاؤنٹی یا زپ کوڈ میں کرایہ داروں کے لیے نامکمل ضرورت کا تخمینہ حاصل ہوا۔ کاؤنٹی یا زپ کوڈ کے لیے کل نامکمل ضرورت کا حساب کرنے کے لیے گھریلو مالکان اور کرایہ داروں کے لیے نامکمل ضروریات کو باہم جمع کیا گیا۔

تمام کاؤنٹیز اور زپ کوڈز کے اندراجات کے لیے نامکمل ضروریات کے ضمن میں 15% لچک کا فیکٹر شامل کیا گیا۔ لچک کا فیکٹر بہتر کاریوں، بڑھوتری، یا سٹرکچر میں مربوط کردہ دیگر عناصر کی آفت سے نمٹنے، بحال ہونے کی ان عناصر کی باہم عدم مربوط ہونے کی نسبت مزید سرعت کے ساتھ نمٹنے کو بیان کرتا ہے۔

کاؤنٹی کے لیے واحد مشترکہ وجود حاصل کرنے کے لیے 80% تفویض کاری گروپ جس میں کاؤنٹی اور زپ کوڈ دونوں جزوی طور پر فیڈرل رجسٹر میں انتہائی متاثرہ کے طور پر مجوزہ کاؤنٹی کے پھیلے ہوئے حصوں کے ساتھ، زپ کوڈ لیول کا ڈیٹا زیپ کوڈ-کاؤنٹی کے جوڑ اور نامکمل ضرورت جمع کاؤنٹی کے لیے لچک پذیری) ماسوائے ہوسٹن شہر کے ساتھ کسی جڑاؤ (کو اس کاؤنٹی کے لیے زپ کوڈ کے ڈیٹا کے جوڑ کے ساتھ مربوط کیا گیا۔ زپ کوڈ کاؤنٹی کا جڑواں ڈیٹا جو یکساں کاؤنٹی پر مشتمل ہو وہ بھی واحد وجود میں اکٹھا کر دیا گیا۔ مثلاً، فورٹ بینڈ) ماسوائے ہوسٹن شہر اور فورٹ بینڈ کے زپ کوڈ 77423 کا حصہ (کو فورٹ بینڈ کاؤنٹی کی تفویض کاری کے تجزیے کے ضمن میں فورٹ بینڈ کی کل واحد اینٹری حاصل کرنے کے لیے فورٹ بینڈ زپ کوڈ 77423 کے حصے کے ساتھ مربوط کیا گیا۔ اسی طرح، جب یہاں متعدد زپ کوڈ کاؤنٹی کے جوڑ آئے جو یکساں کاؤنٹی پر مشتمل تھے، تو یہ تجزیے کے لیے واحد زپ کوڈ کاؤنٹی کی اینٹری حاصل کرنے کے لیے باہم مربوط کیے گئے۔

49 متاثرہ کاؤنٹیز کے لیے SoVI اشاریے ڈاکٹر کرسٹوفر ایمرچ (Christopher Emrich) یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں سماجی زد پذیری انڈیکس (SoVI) کی ڈویلپمنٹ میں معروف ماہر سے حاصل کیے گئے۔ سماجی زد پذیری کا انڈیکس Cutter et al (SoVI) کی جانب سے بنایا گیا۔ " (Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). خطرہ کے لیے سماجی زد پذیری، "سوشل سائنس چہار نامہ (2003), 242-261)۔ یہ انڈیکس یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا میں بنایا گیا تھا۔ سماجی زد پذیری اور یہاں پیش کردہ کام کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کے تعلق کے پیچھے یہ تصور ہے کہ سماجی زد پذیری چند جغرافیائی طور پر قابل شناخت آبادی کے گروپ کی جانب سے سیاسی اختیار اور ذرائع تک محدود رسائی، چند مادی حد بندیوں، یا روایت، سوشل کپیٹل، عقائد، اور تیار شدہ ماحول کی خصوصیات) جیسے پھیلاؤ اور انفراسٹرکچر کی قسم، عمارت کی مدت اور سٹاک وغیرہ (سے جڑے ہونے کی وجہ سے ابھرتی ہے۔ سماجی زد پذیری کا تصور یہ ہے کہ یہ سماجی طور پر زد پذیر افراد) یہاں، کاؤنٹیز (کو قدرتی آفات کے مقابلے میں مزید حساس اور کم لچکدار کر دیتے ہیں۔ زیادہ زد پذیر گروپس کا ایسی قدرتی آفات وقوع پذیر ہونے کے موقع پر اپنے بل بوتے پر ردعمل دینے اور بحالی کی صلاحیت کے کم قابل ہوتے ہیں۔ یہ انڈیکس خطرات جیسے آفات کے سماجی اثرات کو سمجھنے، بیان کرنے اور تعین کرنے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔

اصل SoVI کی ریاضیاتی ڈویلپمنٹ کا آغاز سماجی زد پذیری کا باعث بننے کے طور پر لٹریچر میں تسلسل سے دیکھی گئی ان سماجی خصوصیات کی مدد سے شناخت کرتے ہوئے کیا گیا۔ SoVI ایجاد کرنے والوں کی جانب سے زد پذیری کے ممکنہ اقدامات کو سبب سیٹ تک نیچے کے تغیرات بشمول دولت، کاؤنٹی میں بزرگ رہائشیوں کا تناسب، نسل، سماجی حیثیت کے تغیرات، ہسپانوی نسل، ہیلتھ انشورینس کے بغیر رہائشیوں کی شرح فیصد، خصوصی ضروریات کے حامل افراد، سروس انڈسٹری کی ملازمت، مقامی امریکن کی آبادی اور نسل وغیرہ کو واضح کرنے کے لیے لٹریچر جائزہ کے عمل کو استعمال کیا گیا۔ یہ تغیرات شماریاتی مرکزی عنصر کے تجزیے میں داخل کیے جاتے ہیں جو 11 عناصر پر منتج ہوتے ہیں جو کہ اصل ڈیٹا سیٹ سے متعلقہ سماجی زد پذیری میں 76.4% تغیر کی وضاحت کرتے ہیں۔ کاؤنٹی کے لیے

نتیجے میں حاصل ہونے والا SoVI انڈیکس اخذ کیے جانے والے عناصر کا خطی امتزاج ہوتا ہے۔ تازہ ترین SoVI انڈیکس اب 29 تغیرات استعمال کرتا ہے اور ڈیٹا ذرائع خاص طور پر امریکہ محکمہ برائے مردم شماری سے حاصل ہونے والے سماجی و معاشی تغیرات کو باہم یکجا کرتا ہے۔ SoVI مزید جامع ڈسکشن اور پریزنٹیشن <http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%C2%AE-0> پر دی گئی ہے۔

ان تجزیوں کے مقاصد کے لیے، طوفان ہاروے سے متاثرہ اعلان کردہ آفات علاقوں (49) کاؤنٹیز (بہر میں سماجی زد پذیری کے موازنے کے لیے ایک SoVI اسکیل کی ضرورت ہوئی۔ تفویض کاری کے اس عمل میں تجزیے کے لیے چونکہ بیرس کاؤنٹی کی ان تجزیوں سے علیحدہ طور پر انفرادی فنڈنگ کے لیے شناخت کی گئی ہے اس لیے SoVI کے تجزیے میں 48 متاثرہ کاؤنٹیز کا جائزہ لیا گیا ہے۔

دوبارہ ڈاکٹر کرسٹوفر ایمرچ نے SoVI کی کمیونٹیشنز مکمل کیں اور تمام آفت زدہ طور پر اعلان کردہ 49 کاؤنٹیز کے لیے SoVI کے سکورز فراہم کیے۔ ڈاکٹر ایمرچ ماحولیاتی سائنس اور پبلک ایڈمنسٹریشن کے بورڈ میں کے تحصیل یافتہ ایسوسی ایٹ پروفیسر اور یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں نیشنل سینٹر برائے مربوط کوسٹل ریسرچ کے ممبر ہیں۔

تفویض کاری کے عمل میں کے حصے کے طور پر SoVI کے استعمال کے مقصد کے لیے، اسے مثبت بنانے کے لیے خام SoVI کی مطابقت کی ضرورت ہوئی۔ اسے ہر کاؤنٹی کے لیے کم از کم خام SoVI کی قیمت کو تمام کاؤنٹیز میں سے مخصوص کاؤنٹی کی SoVI کی قدر کو منہا کرتے ہوئے، اور پھر ایک حاصل شدہ کو جمع کرتے ہوئے حاصل کیا گیا۔ یہ تمام قدروں کو ایک کے مساوی یا بڑا کر دیتا ہے۔

تفویض کاری کے فیصلہ سازی میں استعمال ہونے والا ایک اور عنصر کاؤنٹی (یا زپ کوڈ) کی آبادی کا اپنے فنڈز بڑھانے یا استعمال کرتے ہوئے آفت میں بحالی اور/یا برقرار رکھنے کی صلاحیت تھا۔ اس مقصد کے لیے فی کس نامکمل ضروریات کا حساب کیا گیا۔ یہ طریقہ دیہی اور شہری آبادی میں فرق کو جانچنے کا بھی پیمانہ ہے۔ ہر کاؤنٹی یا زپ کوڈ کے لیے فی کس نامکمل ضرورت کا تخمینہ آبادی کے حجم کے مطابق شدت کے لیول کے ذریعے تشکیل کردہ نامکمل ضرورت کی رقم) جمع لچک پذیری فیکٹر (پر تقسیم کرتے ہوئے حاصل کیا گیا۔

کاؤنٹی اور زپ کوڈ کے مطابق فنڈز کی تفویض کاری فی کاؤنٹی) یا زپ کوڈ (نامکمل ضروریات کے متناسب امتزاج، مثبت SoVI اور ہر کاؤنٹی) یا زپ کوڈ (کے لیے نامکمل ضرورت پر مشتمل ہے۔ اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، ڈسٹری بیوشن شرح فیصد فراہم کرنے کے لیے ان تین عناصر کے لیے ڈسٹری بیوشن کے لیے علیحدہ شرح فیصد کا تعین کیا گیا جو زیر غور لائے گئے واحد فیکٹر ہونے کی صورت میں قابل اطلاق ہو گا۔ یہ فیکٹر ڈسٹری بیوشن بدلے میں تمام کاؤنٹیز) اور زپ کوڈز جہاں متعلقہ ہو (بہر میں تفویض کاری ڈسٹری بیوشن کی واحد شرح فیصد پیش کرنے کے لیے بعد میں یکجا کر دیئے گئے۔

80% اور 20% مختص فنڈز کی ڈسٹری بیوشن کے لیے فیڈرل رجسٹر میں لکیر شدہ علیحدہ طور پر 80% گروپ اور 20% گروپ کے ساتھ بیرس کاؤنٹی اور ہوسٹن شہر کو منہا کر کے تعین کیا گیا۔ اس لیے 80% مختص فنڈ کے گروپ میں نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری کی بنیاد پر ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد کا حساب ہر کاؤنٹی اور زپ کوڈ کی نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری سکور لے کر اور اسے 80% مختص کردہ فنڈ کے گروپ میں تمام کاؤنٹی یا زپ کوڈز میں نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری کے سکورز پر تقسیم کرتے ہوئے لگایا گیا۔

بالکل اسی طرح، SoVI پر مبنی $1+(Raw\ SoVI - Min(Raw\ SoVI))$ ، $1+(Raw\ SoVI - Min(Raw\ SoVI))$ قدر کی ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد کو 80% تفویض کاری گروپ میں تمام کاؤنٹیز کے $1+(Raw\ SoVI - Min(Raw\ SoVI))$ کے مجموعی سکورز کے ساتھ تقسیم کی گئی جس سے مثبت SoVI سکورز کے لیے ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد حاصل ہوئی۔ بالکل اسی طرح، فی کس نامکمل ضرورت پر مبنی ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد کے لیے، کاؤنٹی یا زپ کوڈ کی فی کس نامکمل ضرورت جمع کاؤنٹی یا زپ کوڈ کے لیے لچک پذیری کو 80% تفویض کاری گروپ میں تمام زپ کوڈز اور کاؤنٹیز بھر میں فی کس نامکمل ضرورت کے مجموعے کے ساتھ تقسیم کیا گیا۔ اس سے ملتا جلتا عمل صرف 20% تفویض کاری گروپ کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ طریقہ کار اس عنصر کے واحد طور پر زیر غور لائے جانے پر ہر کاؤنٹی (یا زپ کوڈ) کے لیے تفویض کردہ شرح فیصد کا تعین کرتی ہے۔ اگر نامکمل ضرورت واحد عنصر ہوں تو ابتدائی نامکمل ضرورت کا عنصر تفویض کاری ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد کا تعین کرتا ہے۔ SoVI کا فیکٹر تفویض کاری ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد پیش کرتا ہے جس کا اطلاق تب ہو گا اگر تباہ شدہ آبادی کی سماجی زہد پذیری واحد فیکٹر ہو۔

ان زیر غور لائے گئے فیکٹر کو علیحدہ طور پر نہیں دیکھا جاتا کیونکہ ایک واحد نمبر بنانے کے لیے ان تینوں کے امتزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ نامکمل ضروریات جمع لچک پذیری ڈسٹری بیوشن اور مثبت SoVI ڈسٹری بیوشن کا امتزاج کرتے ہوئے، اور نامکمل ضرورت جمع فی کس لچک پذیری ڈسٹری بیوشن کو 10-40-50 ماڈل جو نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری کی شرح فیصد کو دئیے گئے 50%، مثبت SoVI ڈسٹری بیوشن اور فی کس نامکمل ضرورت جمع لچک پذیر ڈسٹری بیوشن کے 10% کی حامل تین ڈسٹری بیوشن کے متناسب امتزاج کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ یہ 10-40-50 کا تناسب کاؤنٹی کے لیے نامکمل ضرورت، کاؤنٹی کے لیے SoVI انڈیکس، اور کاؤنٹی کی فی کس نامکمل ضرورت کو استعمال کرتے ہوئے ہر کاؤنٹی کے لیے فنڈنگ کی تفویض کاری کی شرح کا تعین کرتا ہے۔ تین عناصر کا تناسب: سابقہ آفت سے بحالی کی کوششوں میں نامکمل ضرورت، SoVI، اور فی کس نامکمل ضرورت بذریعہ 10%-40%-50% کے ہر فیکٹر کے لیے متناسب حتمی کثرتی بیوشن کی شرح فیصد کو استعمال کیا گیا۔ ڈالر کی تفویض کاری کی رقم 10-40-50 ماڈل کو فنڈنگ کی رقم پر بغیر کسی حد بندی کے کاؤنٹی یا زپ کوڈ کے تفویض کردہ کل ڈالر کی رقم (80% گروپ میں دستیاب 80% فنڈز اور 20% گروپ میں (20% کے لیے ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد قدروں کو استعمال کرتے ہوئے حساب کیا گیا۔

خسارے کا کالم کاؤنٹی یا زپ کوڈ کے لیے نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری فیکٹر بمقابلہ آزادانہ 10-40-50 ماڈل کی ڈالر تفویض کاری کو استعمال کر کے حاصل ہونے والی رقم کو ڈسپلے کرتا ہے۔ یہ کالم کاؤنٹی یا زپ کوڈ کے لیے آزادانہ 10-40-50 تناسب کی تفویض کاری کا عمل استعمال کرتے ہوئے نامکمل ضرورت کے خسارے یا فاضل رقوم کا پیش کرتا ہے۔

عملی طور پر یہ تجویز کرتا ہے کہ چونکہ HUD فنڈز کی ڈسٹری بیوشن اور عمل کاری کا اطلاق کرنے کے لیے فنڈنگ کے لیے اپلائی کرنا، اور پالیسیز بنانا، ایڈمنسٹریشن طریقہ کار، عملے کا انتظام مہنگا عمل ہے اس لیے یہاں کاؤنٹیز کے لیے کم از کم رقم موجود ہو۔ کم از کم تفویض کاری کی رقم کا \$2,000,000 پر تعین کیا گیا ہے اور اس کا اطلاق تمام ریاستی گھریلو مالکان کی معاونت کے پروگرام سپریڈ شیٹ اور مقامی خریداری/حصول کاری پروگرام کی سپریڈ شیٹ میں 80% تفویض کاری کی فیصلہ سازی پر ہوتا ہے۔

کاؤنٹی کے لیے ان کی نامکمل ضرورت سے بڑھ کر فنڈز کی زائد تفویض کاری معقول نہیں ہے، خاص طور پر اگر دیگر کاؤنٹیز نے اب تک اپنی نامکمل ضروریات نہیں وصول پائیں۔ اسی طرز پر کاؤنٹیز کی فنڈنگ کے لیے نامکمل ضروریات جمع لچک پذیری کی رقم کا 200% کی مقررہ حد کی حامل زیادہ سے زیادہ تفویض کاری رقم کی حد بندی نافذ کی گئی ہے۔ یہ دو نمبرز) حد بندی اور فلور (کاؤنٹی یا زپ کوڈ کی جانب سے دی گئی تفویض کاری میں سے فنڈنگ کی وصولی پر حد بندی فراہم کرتے ہیں۔ اگر ایک کاؤنٹی یا زپ کوڈ اپنی زیادہ سے زیادہ تفویض کاری کی حد پر پہنچ جائے، تو پھر 10-40-50 کے اصول کے تحت ان سے منسوب کوئی بھی اور ان کی زیادہ سے زیادہ حد کے فنڈز دیگر کاؤنٹیز اور زپ کوڈ جو اپنی زیادہ سے زیادہ حد تک نہیں پہنچے انہیں دوبارہ تفویض کاری کرنے اور ڈسٹری بیوشن کے لیے دستیاب کیے جائیں گے۔

دوبارہ تفویض کاری کا یہ عمل تفویض کاری کے مسلسل عمل کے ذریعے سر انجام دیا گیا۔ 80% فنڈنگ گروپ میں دو اقساط کیلئے وافر فنڈنگ موجود تھی قبل اس سے کہ تمام رقوم مکمل طور پر تفویض کر دی جاتیں۔ جیسا کہ سپریڈ شیٹ دکھاتی ہے، 80% تفویض کاری کے زمرے میں آنے والے علاقوں کی اکثریت پہلی قسط کی تفویض میں اپنی زیادہ سے زیادہ حد کو نہیں پہنچے۔

دوسری قسط کی کاروائی کے متعلق، فنڈز کی تفویض کاری کو سمت دینے کیلئے دستیاب رقم پر اطلاق کرنے کیلئے ایک تفویض کاری کرنے والی شرح فیصدی تقسیم کو تیار کرنا پڑا تھا جیسا کہ پہلی قسط کیلئے کیا گیا تھا۔ البتہ، یہاں، ان اکائیوں کو صفر فیصد اضافی تفویض دی گئی تھی جنہوں نے اس فارمولے کے تحت اپنی زیادہ سے زیادہ تفویض پہلے ہی حاصل کر لی تھی۔ اس دوسری قسط کی تفویض کرنے کیلئے، جو کاؤنٹیز اپنی زیادہ سے زیادہ حد کو نہیں پہنچیں تھیں ان کیلئے اصل 10-40-50 تقسیم کاری کے امکانات کو دوبارہ عمومی بنایا گیا تاکہ دوسری قسط کی فنڈنگ کیلئے ایک تفویض کاری کرنے والی شرح فیصد کی تقسیم تخلیق کریں۔ یہ کام اصل شرح فیصدوں کو اپنی بالائی سطح سے کم رہ جانے والے علاقوں کی شرح فیصدوں کے میزان سے تقسیم دیتے ہوئے کیا گیا تھا، اس مقصد کے ساتھ، کہ اگر ممکن ہو، تو دوسری قسط میں غیر تکمیل شدہ ضرورت کے 100% کی تفویض کاری کی جائے۔ جیسا کہ اوپر وضاحت کی گئی ہے یہ 80% گروپ کیلئے حاصل کر لیا گیا تھا۔

چونکہ فنڈنگ 80% تفویض کاری کے ذیلی گروپ میں کاؤنٹیز اور ZIP کوڈز دونوں کیلئے تفویض کی گئی تھی، اور چونکہ تمام ZIP کوڈز یا تو کسی 80% تفویض کاری والی کاؤنٹی یا کسی 20% تفویض کاری والی کاؤنٹی کے ساتھ ہم مقام ہوتے ہیں، لہذا اس ہم مقام ہونے کی وجہ سے دوہری تفویض کاری (دوہری گنتی) کے ساختی مسئلے سے بچنے کیلئے احتیاط برتنی پڑی تھی۔ زائد گنتی سے بچنے کیلئے ہم مقام علاقے کو کاؤنٹی سے تفریق کرنا پڑا تھا۔

اس کاروائی میں ZIP کوڈ کے اعتبار سے اصل نقصان کا ڈیٹا استعمال کرنا، اور ڈیٹا کو ZIP کوڈ اور کاؤنٹی کے جوڑوں میں تقسیم کر دینا شامل تھا۔ کاؤنٹی کیلئے مردم شماری کا میزان بھی اس طرح درست کیا گیا تھا کہ اس کاؤنٹی کی آبادی کو ہٹا دیا جائے جو پہلے سے ZIP کوڈ کی آبادی میں گنی جا چکی تھی۔ اس کاروائی نے کاؤنٹی اور ZIP ڈیٹا میں ہم مقامی کی صورت میں دوہری گنتی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کاروائی کو تمام ہم مقامیوں کیلئے استعمال کیا گیا تھا۔ اسی کاروائی کو 20% سب سے زیادہ متاثر نہ ہونے والے تفویض کاری کے ذیلی گروپ میں ZIP کوڈ کی تفویض کاری اور کاؤنٹی کی تفویض کاری میں ہم مقامی کے اثر کو دور کرنے کیلئے استعمال کیا گیا تھا۔

چونکہ ہیوسٹن (Houston) شہر ایک علیحدہ تفویض کاری وصول کرے گا، لہذا ہیوسٹن شہر کی گنتیوں کو ان کوئی سی بھی کاؤنٹیز یا ZIP کوڈز سے حذف کرنا لازمی تھا جن کے ساتھ وہ ہم مقام ہوتا ہے۔ FEMA کے مالکان مکان اور کرائے داروں کو پہنچنے والے نقصان کی شدت کے درجات کی گنتیوں کے ڈیٹا سیٹس سے FEMA کے توثیق شدہ نقصان کے تفصیلی ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے، شدت کے تینوں درجات کیلئے ہیوسٹن شہر کے مالکان مکان اور کرایہ داروں کیلئے میزانوں کی شناخت اور اخذ کاری کرنا ممکن تھا۔ پھر ان اعدادوشمار کو ہیوسٹن شہر کو فنڈز تفویض کی جانے والی کسی دیگر اکائی میں گنے جانے سے خارج کرنے کیلئے استعمال کیا گیا، ویسے ہی جیسا کہ ہم مقام کاؤنٹیز اور ZIP کوڈز کیلئے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ ہیوسٹن کی رہائش گاہوں کی پہلے سے نمائندگی کرنے والی مردم شماریوں اور غیر تکمیل شدہ ضرورت کی رقوم کو فورٹ بینڈ (Fort Bend) ڈیٹا سیٹ سے خارج کر دیا گیا۔

9 فروری 2018 کے فیڈرل رجسٹر میں HUD کو درکار خریداری/جائیداد کے حصول کے پروگرام کا تفویض کاری کا گروپ اور 20% ریاستی مالک مکان کی معاونت کا پروگرام۔

20% ریاستی مالکان مکان کی معاونت کے پروگرام اور مقامی خریداری/جائیداد کے حصول کے پروگرام کی تفویض کاری والی کاؤنٹیز کیلئے کاروائی ویسی ہی تھی جو کہ ریاستی مالکان مکان کی معاونت کے پروگرام اور مقامی خریداری/جائیداد کے حصول کے پروگرام دونوں کے 80% گروپس کیلئے 80% تفویض کاری والی کاؤنٹیز کیلئے بیان کی

گئی تھی۔ جس کے تحت ایک کم از کم تفویض کاری کی رقم کا تعین کیا گیا تھا، اور اس کے بعد باقی ماندہ فنڈز اقساط میں تفویض کیے جاتے تھے جن میں ہر قسط پر زیادہ سے زیادہ تفویض کاریاں عائد کی جاتی تھیں۔

20% مقامی خریداری/جائیداد کے حصول کے پروگرام کیلئے تفویض کاری کی کم از کم رقم کو اُس گروپ کیلئے علیحدہ سے ایک موزوں تعین درکار ہوتا تھا کیونکہ تمام تر 33 کاؤنٹیز کو کم از کم \$2,000,000 دینے کیلئے اتنی رقم دستیاب نہیں تھی۔ یہ کام ایک بتدریج ذخیرگی کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے کیا گیا جو جائیداد کی خریداری کیلئے ضروری انتظامی اخراجات، سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹی کیلئے غیر تکمیل شدہ ضروریات، اور سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹی میں مقامی خریداری/جائیداد کے حصول کے 20% گروپ میں ممکنہ طور پر خریدے جانے والے گھروں کی شرح فیصد کا احاطہ کرتا تھا۔

جانے پہچانے انتظامی اخراجات یہ ہیں کہ پروگرام (2%) اور پراجیکٹ (10%) انتظامی اخراجات کسی خریداری کی عطا کردہ گرانٹ) گُل عطا کردہ گرانٹ (میں رقم کے 12% کے برابر ہوتے ہیں۔ اس گروپ میں جس کاؤنٹی کی سب سے زیادہ غیر تکمیل شدہ ضرورت ہے وہ والر کاؤنٹی ہے جس میں غیر تکمیل شدہ ضرورت \$19,548,797 ہے۔ والر کاؤنٹی میں بی سب سے زیادہ نقصان زدہ رہائش گاہیں) گُل (177 اور زیادہ بڑے اور شدید نقصان کے زمروں میں آنے والی جائیدادوں کی گُل تعداد سب سے زیادہ ہے) گُل (105 - زیادہ بڑے اور شدید نقصان کے زمروں میں آنے والی جائیدادوں کے متعلق غالب گمان یہی ہے کہ انہیں خریدا جاچکا ہو گا، جن میں سب سے زیادہ نقصان زدہ کاؤنٹی) والر (میں نقصان زدہ گھروں میں سے 59% = 105/177 ممکنہ طور پر خریدے جا چکے ہیں۔ یہ ڈیٹا کم از کم تفویض کاری کے ڈالروں کا تخمینہ لگانے کیلئے ایک منطقی اور مساواتی طریقے کے طور پر کام آیا۔ 12% انتظامی اخراجات کو اس غیر تکمیل شدہ ضرورت سے ضرب دینے سے ہر کاؤنٹی کیلئے کم از کم $\$1,384,055 = 12 \times .59 \times \$19,548,797$ کا نتیجہ نکلتا ہے۔

ریاستی مالکان مکان کی معاونت کے پروگرام اور مقامی خریداری/جائیداد کے حصول کے پروگرام میں 20% تفویض کاری کے گروپس آٹھ کاؤنٹیز تھیں جنہوں نے پہلی قسط میں کم از کم تقسیم وصول کی۔ یہ وہ کاؤنٹیز تھیں جنہوں نے ایک FEMA IA کاؤنٹی کا اعلان وصول نہیں کیا اور کم از کم حد پر نہیں پہنچیں۔ تاہم، ان کاؤنٹیز نے ایک FEMA PA اعلان وصول کیا جو انہیں CDBG-DR فنڈز کیلئے اہل بناتا تھا۔

لہذا مقامی خریداری/جائیداد کے حصول کے پروگرام کے 20% گروپ کیلئے پہلی قسط نے 33 کاؤنٹیز کو کم از کم رقم تفویض کی اور یہ رقم (\$45,673,815) 20% گروپ کی خریداری کی فنڈنگ کے عمل میں تفویض کاری کیلئے دستیاب رقم سے تفریق کر لی گئی۔ تمام کاؤنٹیز کو کم از کم فنڈنگ فراہم کرنے کے بعد یہ باقی ماندہ رقم پھر تمام کاؤنٹیز پر غیر تکمیل شدہ ضرورت کے 200% نیز مقابلے کی صلاحیت کی ایک زیادہ سے زیادہ تفویض کاری کی حد عائد کرنے کے بعد دو مزید اقساط کا استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر تفویض کر دی گئی۔ جب دوسری قسط سے رقوم ختم ہو گئیں، تو چار کاؤنٹیز اپنی زیادہ سے زیادہ غیر تکمیل شدہ ضرورت کے 200% پر پہنچ چکی تھیں۔

B. مقامی انفراسٹرکچر پروگرام کی تفویض

باروی طوفان کے انفراسٹرکچر کی تفویض کے تجزیوں کے پروفیسرز بیٹرک بروکٹ، راجیو گرج، لینڈا گولڈن، جیمز نولن اور الیسا والش یونیورسٹی آف ٹیکساس بمقام آسٹن، 27 مارچ 2018

1 HUD کی سب سے زیادہ متاثرہ کاؤنٹیز اور ZIP کوڈز کی فہرست فیڈرل رجسٹر، / والیم / 83، No. 28 جمعہ 9 فروری / 2018 نوٹسز، جدول 1 سے آتی ہے۔

- (2) کاؤنٹی کی آبادی کے حساب سے 2016 کی آبادی پر کاؤنٹی کی آبادیوں کے ڈیٹا U.S. مردم شماری 2016 امریکی کمیونٹی سروے اور دیگر تجدید کردہ معلومات سے حاصل کیے گئے تھے³⁷۔
- (3) 2/1/2018 تک PA کی تخمینہ کردہ رقم کیلئے ڈیٹا سیٹ FEMA عوامی معاونت (PA) کی رقم سے فراہم کردہ تھا۔
- (4) HUD کی شناخت کردہ 80% سب سے زیادہ متاثرہ اور زیوں حال کاؤنٹیز اور 20% بقایا متاثرہ اور زیوں حال کاؤنٹیز کی تقسیم جن میں سب سے زیادہ متاثرہ ZIP کوڈز شامل ہیں، اُسے فیڈرل رجسٹر / Vol. 83, No. 28 / جمعہ، 9 فروری / 2018 نوٹسز میں مختص کیا گیا ہے۔
- (5) کاؤنٹی کو تفویض کاری سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ یہ ریاست کی جانب سے براہ راست فنڈز وصول کرے گی۔ پیرس کاؤنٹی PA انفراسٹرکچر کے دعوے تمام 49 کاؤنٹیز کیلئے گل دعووں کے 93% سے زائد کی نمائندگی کرتے تھے۔ HUD فنڈز کی وہ رقم جو باقی ماندہ 48 کاؤنٹیز کو تقسیم کی جانی ہے \$413,431,338 ہے، جس میں سے HUD 80% کی تعین کردہ سب سے زیادہ متاثرہ اور زیوں حال کاؤنٹیز (\$330,745,070.40) کو جائے گی اور 20% متاثرہ کاؤنٹیز اور سب سے زیادہ متاثرہ ZIP کوڈز (\$82,686,267.60) کو جائے گی۔
- (6) غیر تکمیل شدہ ضرورت کا تخمینہ گل پراجیکٹ اخراجات کے تقاضوں سے مطابقت رکھنے والی ایک 10% کاؤنٹی سے کیا گیا۔
- (7) ایک مقابلے کی صلاحیت کا عنصر گل پراجیکٹ اخراجات کے 15% کے حساب سے تخمینہ کردہ تھا۔ مقابلے کی صلاحیت کا عنصر کسی عمارتی ڈھانچے میں بہتریوں، اضافوں یا اُس دیگر شامل ہونے والے دیگر اجزاء کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ اُس کی کسی قدرتی آفت کا مزید تیزی سے مقابلہ کرنے یا اُس سے بحال ہونے کی صلاحیت کو اُس صورت کی نسبت بڑھاتے ہیں اگر ان اجزاء کو شامل نہ کیا گیا ہوتا۔
- (8) جزو [1+ Raw SoVI - Min Raw SoVI] کا تخمینہ کاؤنٹی کے درجے پر معاشرتی طور پر زد میں آنے کے خام شمار (SoVI) (Social Vulnerability Index) کے سکورز کی بنیاد پر لگایا گیا تھا۔ خام SoVI کو ہر کاؤنٹی کے SoVI منفی 49 کاؤنٹیز میں سے ہر ایک کے کم از کم خام SoVI سکور میں ایک (1) جمع کرنے ہوئے مثبت بنایا جاتا ہے۔ 49 کاؤنٹیز کیلئے خام SoVI سکورز یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا، قومی مرکز برائے جامع ساحلی تحقیق کے ڈاکٹر کرسٹوفر ایمرک کی جانب سے فراہم کیے گئے تھے۔ 49 متاثرہ کاؤنٹیز کیلئے خام SoVI شماریات یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں ڈاکٹر کرسٹوفر ایمرک سے حاصل کیے گئے تھے، جو کہ معاشرتی طور پر زد میں آنے کے شمار (SoVI) کی تیاری میں ماہر ہیں۔ یہ معاشرتی طور پر زد میں آنے کا شمار (SoVI) (Index) کٹر وغیرہ (Cutter, S. (Cutter et al.)) Social vulnerability to environmental hazards,” Social ”L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Science Quarterly, 84(2), 242–261) نے تخلیق کیا تھا۔ یہ شمار یونیورسٹی آف ساؤتھ کیروولینامین تخلیق کیا گیا تھا۔ معاشرتی طور پر زد میں آنے، اور یہاں پر پیش کیے جانے والے کام کے تناظر میں اُس کی اہمیت کے پیچھے کارفرما نظریہ یہ ہے، کہ معاشرتی طور پر زد میں آنے کا شکار مخصوص جغرافیائی طور پر قابل شناخت آبادی کے گروہ بنتے ہیں جن کو سیاسی قوت اور وسائل تک محدود رسائی ہو، جن پر مخصوص طبعی حدود عائد ہوتی ہوں، یا جو رسوم و رواج، معاشرتی سرمائے، عقائد، اور تعمیر شدہ ماحول کی خصوصیات) جیسا کہ کثافت اور انفراسٹرکچر کی قسم، عمارت کی عمر اور سٹاک، وغیرہ (کی وجہ سے مجبور ہوں۔

<https://www.census.gov/search-37/results.html?page=1&stateGeo=&searchtype=web&cssp=&q=texas+counties+population&search.x=0&search.y=0&search=submit>

معاشرتی طور پر زد میں آنے کا نظریہ یہ ہے کہ یہ شمار معاشرتی طور پر زد میں آنے والے لوگوں کو کسی قدرتی آفت کے واقعے کیلئے مزید نقصان کے حامل، یا مقابل کرنے کے کم قابل بناتا ہے۔ اگر ایسے قدرتی آفت کے واقعات پیش آتے ہیں، تو زیادہ زد میں آنے والے گروہ اپنے بل بوتے پر اُن کا مقابلہ کرنے یا اُن سے بحال ہونے کے کم قابل ہوتے ہیں۔ یہ شمار کسی خدشے کے معاشرتی اثرات مثلاً کسی قدرتی آفت کو ماپنے بیان کرنے، اور سمجھنے کیلئے کارآمد ہے۔

SoVI کی ریاضیاتی افزائش کا آغاز اُن معاشرتی خصوصیات کی شناخت کرنے کے ذریعے ہوتا ہے جنہیں لٹریچر میں معاشرتی طور پر زد میں آنے کی وجہ بننے والے عناصر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ معاشرتی طور پر زد میں آنے کے ممکنہ عوامل کو 27 متغیرات پر مجتمع کرنے کیلئے SoVI کے مؤجدان کی جانب سے ایک لٹریچر ریویو کا عمل استعمال کیا گیا تھا۔ یہ 27 متغیرات (بشمول دولت، کاؤنٹی میں زائد العمر مکینوں کا تناسب، نسل، معاشرتی حیثیت کے متغیرات، ہسپانوی نسل سے تعلق رکھنا، طبی انشورنس نہ رکھنے والے مکینوں کی شرح فیصد، خصوصی ضروریات والے افراد، سروس انڈسٹری میں ملازمت، اصل النسل) ریڈ انڈین (امریکی آبادی اور صنف، وغیرہ) (ایک شماریاتی اصولی جزوی عنصر کے تجزیئے میں داخل کیے جاتے ہیں جو 11 اجزاء میں منہج ہوتا ہے جو کہ اصل ڈیٹا سیٹ کے مقابل معاشرتی طور پر زد میں آنے میں 76.4% معیاری اختلاف کے مربع کے 76.4% کی وضاحت کرتے ہیں۔ کسی کاؤنٹی کیلئے نتیجے کا SoVI شمار اخذ کردہ عوامل کا خطوط دار مرکب ہوتا ہے۔ SoVI شمار اور اس کے تیار کردہ معاشرتی و معاشی متغیرات ڈیٹا کے اُن ذرائع سے حاصل کیے جاتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر ریاستہائے متحدہ کے مردم شماری بیورو سے تعلق رکھتے ہیں۔ SoVI پر ایک مزید گہرائی میں مباحثہ اور پریزینٹیشن یہاں پر دی گئی ہے۔

<http://artsandsciences.sc.edu/geog/hvri/sovi%2%AE-0>

اس تجزیئے کے مقاصد کیلئے، ہاروی طوفان کے قدرتی آفت کا شکار ہونے کے طور پر اعلان کردہ متاثرہ علاقوں میں معاشرتی طور پر زد میں آنے کا موازنہ کرنے کیلئے ایک SoVI پیمانہ درکار تھا۔ ڈاکٹر کرسٹوفر ایمرک کی سفارش ڈاکٹر سوزن کٹر نے کی تھی، جو کہ اس زد میں آنے کے شمار کی بانیوں میں سے ایک ہیں۔ ڈاکٹر ایمرک ماحولیاتی سائنس اور انتظام عامہ کے بورڈ ممبران کے اعزاز یافتہ پروفیسر اور یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں قومی مرکز برائے جامع ساحلی تحقیق کے ممبر ہیں۔ ڈاکٹر ایمرک نے تخمینات مکمل کیے اور تمام 49 قدرتی آفت کی شکار کاؤنٹیز کیلئے SoVI کے سکورز فراہم کیے۔ چونکہ پیرس کاؤنٹی ریاست سے علیحدہ طور پر فنڈنگ وصول کرتی ہے، اس لیے اس کا PA انفراسٹرکچر تفویض کاری ٹیبل سے اخراج کر دیا گیا لیکن دیگر 48 کاؤنٹیز کے لیے SoVI سکورز غیر تبدیل شدہ رہیں گے۔ ڈاکٹر ایمرک کے مطابق، SoVI ماڈل کے لیے کم از کم 100 ان پٹ اور انہیں 49 آفت زدہ قرار دی گئی کاؤنٹیز کے متوازی چلایا جانا درکار ہے۔ پیرس کاؤنٹی کو ہٹانا بقیہ دیگر کاؤنٹیز میں SoVI سکورز کو تبدیل نہیں کرے گا۔

(9) تفویض کاری کے فیصلہ سازی میں استعمال ہونے والا ایک اور عنصر کاؤنٹی کی آبادی کا اپنے فنڈز بڑھانے یا استعمال کرتے ہوئے آفت میں بحالی اور/یا برقرار رکھنے کی صلاحیت تھا۔ اس مقصد کے لیے فی کس نامکمل ضروریات کا حساب کیا گیا۔ یہ طریقہ دیہی اور شہری آبادی میں فرق کو جانچنے کا بھی پیمانہ ہے۔ ہر کاؤنٹی کے لیے فی کس نامکمل ضرورت کا تخمینہ آبادی کے حجم کے مطابق تشکیل کردہ نامکمل ضرورت کی رقم پر تقسیم کرتے ہوئے حاصل کیا گیا۔

(10) فنڈز کی تفویض کاری فی کاؤنٹی نامکمل ضروریات کے متناسب امتزاج، مثبت SoVI اور ہر کاؤنٹی کے لیے نامکمل ضرورت پر مشتمل ہے۔ اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، ڈسٹری بیوشن شرح فیصد فراہم کرنے کے والے ان تین عناصر کے لیے ڈسٹری بیوشن کے لیے علیحدہ شرح فیصد کا تعین کیا گیا جو تمام کاؤنٹیز میں واحد ڈسٹری بیوشن کے لیے بعد میں

اکٹھے کیے گئے۔ 80% تفویض کاری HUD) انتہائی متاثرہ کاؤنٹیز (اور 20% تفویض کاری کے لیے ڈسٹریبیوشن کے لیے متاثرہ کاؤنٹیز اور انتہائی متاثرہ زپ کوڈز کا تعین فیڈرل رجسٹر کی جانب سے فراہم کردہ رہنمائی کے مطابق کیا گیا۔ اس لیے 80% مختص فنڈ کے گروپ میں نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری کی بنیاد پر ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد کا حساب ہر کاؤنٹی کی نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری سکور لے کر اور اسے 80% مختص کردہ فنڈ کے گروپ میں تمام کاؤنٹی میں نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری پر تقسیم کرتے ہوئے لگایا گیا۔ بالکل اسی طرح، SOVI پر مبنی $1+(Raw\ SoVI - Min(Raw\ SoVI))$ ، $1+(Raw\ SoVI - Min(Raw\ SoVI))$ قدر کی ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد کو 80% تفویض کاری گروپ میں تمام کاؤنٹیز کے $1+(Raw\ SoVI - Min(Raw\ SoVI))$ کے مجموعی سکورز کے ساتھ تقسیم کی گئی جس سے مثبت SOVI قدروں کے لیے ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد حاصل ہوئی۔ بالکل اسی طرح، فی کس نامکمل ضرورت پر مبنی ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد کے لیے، کاؤنٹی کی فی کس نامکمل ضرورت جمع کاؤنٹی کے لیے لچک پذیری کو 80% تفویض کاری گروپ HUD) انتہائی متاثرہ کاؤنٹیز (میں تمام کاؤنٹیز بھر میں فی کس نامکمل ضرورت کے مجموعے کے ساتھ تقسیم کیا گیا۔ اس سے ملتا جلتا عمل صرف 20% تفویض کاری گروپ) متاثرہ کاؤنٹیز اور انتہائی متاثرہ زپ کوڈز (کے لیے استعمال کیا گیا۔

نامکمل ضروریات جمع لچک پذیری ڈسٹری بیوشن اور مثبت SOVI ڈسٹری بیوشن کی سلسلہ بندی، اور نامکمل ضرورت جمع فی کس لچک پذیری ڈسٹری بیوشن کو 50-40-10 ماڈل جو نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری کی شرح فیصد کو دئے گئے 50%، مثبت SOVI ڈسٹری بیوشن کا 40% اور فی کس نامکمل ضرورت جمع لچک پذیر ڈسٹری بیوشن کے 10% کی حامل تین ڈسٹریبیوشن کے متناسب امتزاج کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ 50-40-10 کا یہ تناسب ہر کاؤنٹی کے لیے فنڈنگ تفویض کاری کی شرح فیصد کا درج ذیل کو استعمال کرتے ہوئے تعین کرتا ہے: کاؤنٹی میں نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری، کاؤنٹی کے لیے SOVI انڈیکس، اور کاؤنٹی کے لیے استعمال ہونے والی فی کس نامکمل ضرورت۔

11) ڈالر کی تفویض کاری کی رقم 50-40-10 ماڈل کو HUD فنڈنگ کی رقم پر بغیر کسی حد بندی کے کاؤنٹی کے تفویض کردہ کل ڈالر کی رقم (80% گروپ HUD) انتہائی متاثرہ کاؤنٹیز (میں دستیاب 80% فنڈز اور 20% گروپ) متاثرہ کاؤنٹیز اور انتہائی متاثرہ زپ کوڈز (میں 20% کے لیے ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد قدروں کا اطلاق کرتے ہوئے حساب کیا گیا۔

خسارے) یا فاضل (کا کالم نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری فیکٹر بمقابلہ آزادانہ 50-40-10 ماڈل کی ڈالر تفویض کاری کو استعمال کر کے حاصل ہونے والی رقم کو ڈسپلے کرتا ہے۔ یہ کاؤنٹی کے لیے آزادانہ 50-40-10 تناسب کی تفویض کاری کا عمل استعمال کرتے ہوئے سابقہ بیان کردہ طور پر نامکمل ضرورت کے خسارے یا فاضل رقوم کا پیش کرتا ہے۔

عملی طور پر یہ تجویز کرتا ہے کہ چونکہ HUD فنڈز کی ڈسٹری بیوشن اور عمل کاری کا اطلاق کرنے کے لیے فنڈنگ کے لیے اپلائی کرنا، اور پالیسیز بنانا، طریقہ کار، عملے کا انتظام مہنگا عمل ہے اس لیے یہاں کاؤنٹیز کے لیے کم از کم رقم موجود ہو۔ کم از کم تفویض کردہ رقم \$510,000 پر سیٹ کر دی گئی اور اس کا تفویض کاری کے تمام فیصلوں پر اطلاق کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح، کاؤنٹی کے لیے ان کی نامکمل ضرورت سے بڑھ کر فنڈز کی زائد تفویض کاری معقول نہیں ہے، خاص طور پر اگر دیگر کاؤنٹیز نے اب تک اپنی نامکمل ضروریات نہیں وصول پائیں۔ اسی طرح، اگر گروپ میں موجود تمام کاؤنٹیز نے ابھی تک نامکمل ضرورت کی تفویض کردہ رقم وصول نہیں پائی، تو پھر زیادہ سے زیادہ تفویض کردہ رقم پر کاؤنٹیز کی فنڈنگ کے لیے نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری کی رقم کا 200% کی حامل حد کا

نفاذ کر دیا گیا۔ یہ دو نمبرز) حد بندی اور فلور (کاؤنٹی کی جانب سے دی گئی تفویض کاری میں سے فنڈنگ کی وصولی پر حد بندی فراہم کرتے ہیں۔ اگر ایک کاؤنٹی کم از کم ڈسٹری بیوشن کی بلند حد اور اپنی زیادہ سے زیادہ تفویض کاری کی حد پر پہنچ جائے، تو پھر 10-40-50 کے اصول کے تحت ان سے منسوب کوئی بھی اور ان کی زیادہ سے زیادہ حد کے فنڈز دیگر کاؤنٹیز جو اپنی زیادہ سے زیادہ حد تک نہیں پہنچے انہیں دوبارہ تفویض کاری کرنے اور ڈسٹری بیوشن کے لیے دستیاب کیے جائیں گے۔ دوبارہ تفویض کاری کا یہ عمل تفویض کاری کے مسلسل عمل کے ذریعے سر انجام دیا گیا۔ انتہائی متاثرہ کاؤنٹیز کے 80% فنڈنگ کے گروپ میں، تمام کاؤنٹیز کی نامکمل ضروریات کم از کم حد سے بالا ہیں۔ تاہم، یہاں تمام رقوم کے مکمل طور پر تفویض ہونے سے قبل اور چند کاؤنٹیز فنڈز کے ختم ہونے سے قبل زیادہ سے زیادہ تفویض کاری وصول نہ کرتے ہوئے صرف دو مرحلوں کے لیے کافی فنڈز تھے۔ جیسا کہ سپریڈ شیٹ میں دکھایا گیا ہے، 80% تفویض کاری گروپ کیٹگری میں دی گئی 15 کاؤنٹیز میں سے صرف 4 کاؤنٹیز اپنی نامکمل ضرورت کے زیادہ سے زیادہ 200% تک پہنچی اور 3 کاؤنٹیز نے دوسرے مرحلے میں فنڈز ختم ہونے سے قبل اپنی نامکمل ضرورت کا 100% وصول نہیں کیا۔ متاثرہ کاؤنٹیز کے 20% گروپ اور انتہائی متاثرہ زب کوڈز میں، تمام کاؤنٹیز نے نامکمل ضرورت جمع لچک پذیری کا کم از کم 200% کی زیادہ سے زیادہ ڈسٹری بیوشن وصول پائی۔ HUD کی جانب سے تفویض کردہ تمام فنڈز کی 20% گروپ کو مکمل ادائیگی کے لیے، کم از کم تفویض کردہ رقم \$510,000 پر سیٹ کر دی گئی۔ کم از کم ڈسٹری بیوشن وصول کرنے والی چند کاؤنٹیز اپنی نامکمل ضرورت کے 200% سے تجاوز کر گئیں اور عمومی طور پر یہ کم تر نامکمل ضروریات جبکہ زیادہ سماجی زد پذیری کی حامل کاؤنٹیز ہیں۔ راؤنڈنگ کرنے کی وجہ سے، دوسرے مرحلے کے بعد اضافی فنڈز کے \$208.17 کو 20% گروپ کو تفویض کر دیا گیا اور یہ دوسرے مرحلے کے اختتام پر زیادہ سے زیادہ ڈسٹری بیوشن پر پہنچنے والی آخری کاؤنٹی تھی۔

دوسرے اور تیسرے مرحلے کے عمل کے حوالے سے، فنڈ کی تفویض کاری کے لیے ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد تشکیل دی گئی، جیسا کہ پہلے مرحلے کے لیے دی گئی تھی۔ یہ کرنے کے لیے، کاؤنٹیز کے لیے 10-40-50 کی اصل ڈسٹری بیوشن شرح فیصد جو ابھی تک اپنی زیادہ سے زیادہ حد پر نہیں پہنچی انہیں دوسرے اور تیسرے مرحلے کی فنڈنگز کے لیے ڈسٹری بیوشن کی شرح فیصد بنا نے کے لیے دوبارہ معمول پر لایا گیا۔ یہ اصل شرح فیصد کو حد سے نیچے بقیہ علاقوں کی شرح فیصد کے مجموعے کے ساتھ تقسیم کرتے ہوئے کیا گیا جہاں اگر ممکن ہو تو دوسرے مرحلے میں نامکمل ضرورت کی 100% تفویض کاری مقصود اور زیادہ سے زیادہ تفویض کاری کی تقسیم یا بقیہ فنڈز کی تیسرے مرحلے میں تقسیم مقصود تھی۔ 80% گروپ کے لیے، تمام تفویض کردہ فنڈز دوسرے مرحلے کے لیے تقسیم کر دیئے گئے۔ 20% گروپ کے لیے، تمام فنڈز تیسرے مرحلے کے لیے تقسیم کر دیئے گئے۔